

ya aap Duaen padhna chahte hain?, Magar dua ke alfaaz yaad nahi hain, Bilkul fikr na karein! yeh KITAB aap ki :ahnumai ke liye hai, is kitab me Quran se 75, Sahih Aha-lees se 71 Duain shamil hain. AL-HAMDULILLAAH

الدُّعَاءُ الْمَسْتَجَابُ مِنْ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَصَحِيحِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ

Arabic Matan

Urdu Tarjama

Transliteration

Roman Tarjama

مصنف: عبداللہ ابن احمد العارفين
منتخب مستجاب دعائیں
قرآن کریم اور صحیح احادیث سے



مَحَدَّثَاتُ الْعَصْرِ وَتَأْوِيلُ السُّنَّةِ
الأمل محمد بن صالح العثيمين
رحمته الله تعالى

اعداد ترجمہ و مستدل حدیث و تفسیر

ڈاکٹر حفصہ رشید شیری مدنی وفقہ
ورفقاء ادارہ اسک اسلام پیڈیا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

إِنِّي سَمِعْتُ دُعَاؤَكُمْ

"کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔"

"Ke mujh se dua karo mein tum'hari duao ko qubool karonga".

(Surah Ghaafir : 40:60) سُورَةُ الْغَافِرِ

قارئیں کرام توجہ فرمائیں

یہ کتابچہ پاکٹ سائز میں شائع کی جانے والی ایک مختصر کتاب ہے، جس میں اہم دعاؤں کو سہل اور جامع انداز میں پیش کیا گیا ہے، اصل اور مفصل کتاب میں مستدل احادیث، معتبر دلائل اور تفصیلی حوالہ جات شامل کیے گئے ہیں، جو حضرات تمام تفصیلات کا مطالعہ کرنا چاہتے ہوں، وہ اصل مفصل نسخے کی طرف رجوع فرمائیں، ان شاء اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس پاکٹ سائز کتابچہ کو میرے لیے اور تمام پڑھنے والوں کے لیے نفع بخش بنائے، آمین۔

Yeh kitabcha pocket size mein shaye ki jane wali ek mukhtasar kitab hai, jis mein aham du'aon ko sehal aur jaame andaaz me pesh kiya gaya hai. Asal aur mufassal kitab me mustadal ahadees, mo'tabar dalaail aur tafseeli hawala jaat shamil kiye gaye hain. Jo hazraat tamam tafseelaat ka mutala'a karna chahte hon, woh asal mufassal nuskhe ki taraf rujoo farmayein, In shaa Allaah. Allaah Subhanahu wa Ta'ala se dua hai ke woh is pocket size kitabche ko mere liye aur tamam padhne walon ke liye nafa' bakhsh banaye, Aameen.



مقدمہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ
أَنْفُسِنَا، وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ يَاجْسَدًا إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، وَسَلَّمَتْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا، أَمَّا بَعْدُ:

دعاء ہی عبادت ہے، اس کے ذریعے بندہ اپنے رب سے اپنی حاجات
بیان کرتا اور اپنی کمزوری و محتاجی کا اظہار کرتا ہے، سورہ فاتحہ کی آیت ﴿إِيَّاكَ
نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ میں اللہ تعالیٰ نے بندے کو سکھایا ہے کہ وہ خالص
عبادت صرف اللہ ہی کے لیے کرے کسی کو شریک نہ کرے۔

سبب تالیف اور دعاء کی مناسبت ذکر نہ کرنے کی وجہ؟

(مختصر جواب: طلبہ کی تحفیظ میں آسانی کے لئے ابواب بندی یا
مناسبت ذکر نہیں کی گئی ہے)

تفصیلی جواب عربی نسخہ کے مؤلف کے قلم سے مقدمہ میں درج

اس طرح ہے جو مندرجہ ذیل ہے:

یہ قرآن کریم میں وارد ہونے والی دعاؤں میں سے منتخب مجموعہ ہے، اس قرآن میں جس کے آگے پیچھے سے باطل کا گزر نہیں ہوتا۔ اس کے بعد محمد مصطفیٰ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کی احادیث اور آپ کی صحیح دعاؤں کا ایک متنوع گلدستہ ہے، اور آپ وہ ہیں جو اپنی خواہش سے نہیں بولتے صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ۔ میں نے اسے اپنے لیے اور ہر اس مسلمان مرد و عورت کے لیے ہتھیار کے طور پر جمع کیا ہے جو اسے پڑھے، کیونکہ یہ دعاؤں کا مجموعہ نوعِ انسانی کے اعتبار سے سب سے افضل ہستی کی دعاؤں میں سے ہے۔ میں نے اس میں صرف دعا کے اصل متن پر اکتفا کیا ہے، سند یا موقع و مناسبت کا ذکر نہیں کیا، تاکہ جو شخص ان دعاؤں کے ذریعے دعا کرنا چاہے، یا انہیں حفظ کرنا یا سکھانا چاہے، اس کے لیے بات مختصر اور آسان رہے۔

عرض مترجم و مرتب اردو

نسخہ: عربی زبان سے اردو میں ترجمہ کے ساتھ ساتھ مستند احادیث کی تخریج، دلائل اور 'محدث العصر محی السنۃ الامام البانی رحمۃ اللہ علیہ' کے احکام و تحقیق کے تمام مراحل شیخ ارشد بشیر مدنی وفقہ اللہ نے ”آسک اسلام پیڈیا“ کی ٹیم کے تعاون سے مکمل فرمائے۔

نوٹ: اردو ترجمہ ویب سائٹ: (islamicurdubooks.com) سے لیا گیا اور انگریزی ترجمہ (sunnah.ocm) سے لیا گیا۔

آیات کا transliteration، دیگر ویب سائٹ سے لیا گیا ہے۔

نوٹ: اصل کتاب (الدعاء المستجاب من القرآن الکریم و صحیح السنۃ) سے بعض دعائیں منتخب کی گئی ہیں۔

اس سلسلے کی مختلف جہتوں میں خصوصاً شیخ عبدالواسع عمری رحمۃ اللہ علیہ شیخ مجاہد عمری رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ عبداللہ عمری رحمۃ اللہ علیہ نے گراں قدر معاونت فراہم کی، اسی طرح جناب علی اولیس صاحب نے ڈیزائننگ کے مرحلے میں اہم کردار ادا

کيا، ميں ان تمام حضرات کا بے حد ممنون اور مشکور ہوں "جزاھم اللہ خيراً
وبارک فی جھودھم"۔

ڈاکٹر حفصہ حفصہ الشاذلی عثمیٰ، بی بی فقیہ



قرآن مجید سے ماخوذ دعائیں

Quran Majeed
se Makhooz Duain

﴿أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿

01

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (1) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (2) مَالِكِ يَوْمِ
الدِّينِ (3) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (4) اهْدِنَا الصِّرَاطَ
الْمُسْتَقِيمَ (5) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (6) غَيْرِ الْمَغْضُوبِ
عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (7)﴾ (حوالہ نمبر: 1)

﴿Transliteration﴾ Alhamdu lillahi rabbi alAAalameena (1)
Alrrahmani alrraheemi (2) Maliki yawmi alddeeni
(3) Iyyaka naAAabudu waiyyaka nastaAAeenu (4)
Ihdina alssirata almustaqeema (5) Sirata allatheena
anAAamta AAalayhim (6) Ghayri almaghdoobi
AAalayhim wala alddalleena(7)

﴿ترجمہ﴾ "سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے (1) بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا (2) بدلے کے دن (یعنی قیامت) کا مالک ہے (3) ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں (4) ہمیں سیدھی (اور سچی) راہ دکھا (5) ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا (6) ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا (یعنی وہ لوگ جنہوں نے حق کو پہچانا، مگر اس پر عمل پیرا نہیں ہوئے) اور نہ گمراہوں کی (یعنی وہ لوگ جو

جہالت کے سبب راہ حق سے برگشتہ ہو گئے) (7)۔

﴿ **Tarjama** ﴾ Sab tareef Allaah ke liye hai jo tamam jahanon ka paalne waala hai (1) Bada maherbaan nihaayat rahem karne waala (2) Badle ke din (yani qiyamat) ka maalik hai (3) Ham sirf teri hi ibadat karte hain aur sirf tujh se hi madad cahte hain (4) Hamein seedhi (aur sachi) raah dikha (5) Un logon ki raah par jin par tu ne inaaam kiya (6) un ki nahi jin per ghazab kiya gaya (yani wo log jinhun ne haq ko pehchana magar us par amal paira nahi huwe) Aur na gumraahon ki (yani wo log jo jihalat ke sabab raah e haq se bar-gashta hogae) (7)

02

﴿ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ (127) رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ

عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿ (128) ﴾ (حوالہ نمبر: 2)

﴿ **Transliteration** ﴾ Rabbana taqabbal minna innaka anta alssameeAAu alAAaleemu (127) Rabbana waijAAalna muslimayni laka wamin thurriyyatina ommatan muslimatan laka waarina manasikana watub AAalayna innaka anta alttawwabu alrraheemu (128)

﴿ترجمہ﴾ "ہمارے پروردگار! تو ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے (127) اے ہمارے رب! ہمیں اپنا فرمانبردار بنالے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار رکھ اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما، تو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے (128)۔"

﴿Tarjama﴾ Hamare parwardigaar! tu ham se qabool farma tu hi sunne waala aur janne waala hai (127) Aye Hamre rab hamein apna farmabardaar banale aur hamari aulad me se bhi ek jamat ko apne ita`at guzar rakh aur hamein apni ibadatein sikha aur hamari tauba qabool farma tu tauba qabool farmane waala aur rahem o karam karne waala hai (128)

03

﴿فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (حوالہ نمبر: 3)

﴿Transliteration﴾ Fasayakfeekahumu Allaahu wahuwa allsameeAAu alAAaleemu

﴿ترجمہ﴾ "اللہ تعالیٰ ان سے عنقریب آپ کی کفایت کرے گا اور وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔"

﴿Tarjama﴾ Allaah tala un se unqareeb aap ki kifayat karega aur wo khoob sunne aur janne waala hai

﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ

رَاجِعُونَ﴾ (حوالہ نمبر: 4)

Allatheena itha asabathum museebatun qaloo inna lillahi wainna ilayhi rajiAAoona(156)

"جنہیں، جب کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں

کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔"

﴿Tarjama﴾ Jinhein jab khabi koi museebat aati hai to keh diya karte hain ke ham tu khud Allaah ta`ala ki milkiyat hain aur ham us ki taraf lautne waale hain

﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

(حوالہ نمبر: 5)

﴿Transliteration﴾ Rabbana atina fee alddunya hasanatan wafee alakhirati hasanatan waqina AAathaba alnnari (201)

"اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں

بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے۔"

﴿Tarjama﴾ Aye Hamre rab hamein duniya mein neki

de aur aakhirat mein bhi bhalai ata farma aur hamein azab e jahannam se najat de

06

﴿ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ

الْكَافِرِينَ ﴾ (حوالہ نمبر: 6)

Rabbana afrigh AAalayna sabran wathabbit aqdamana waonsurna AAala alqawmi alkafireena(250)

﴿ ترجمہ ﴾ "اے پروردگار ہمیں صبر دے، ثابت قدمی دے اور قوم کفار پر ہماری مدد فرما۔"

﴿ Tarjama ﴾ Aye Parwardigaar hamein saber de sabit qadmi de aur qaum e kuffar par hamari madad farma

07

﴿ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ

الْكَافِرِينَ ﴾ (حوالہ نمبر: 7)

﴿ Transliteration ﴾ Rabbana la tuakhithna in naseena aw

akhtana rabbana wala tahmil AAalayna isran kama hamaltahu AAala allatheena min qablina rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi waoAAafu AAanna waighfir lana wairhamna anta mawlana faonsurna AAala alqawmi alkafireena(286)

﴿ترجمہ﴾ "اے ہمارے رب! اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا، اے ہمارے رب! ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، اے ہمارے رب! ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو اور ہم سے درگزر فرما! اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر! تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرم۔"

﴿Tarjama﴾ Aye Hamare rab agar ham bhool gae hun ya khata ki ho to hamein na pakadna Aye hamare rab ham par wo bojh na daal jo ham se pahle logon par daala tha Aye Hamare rab ham par wo bojh na daal jis ki hamein taqat na ho aur ham se darguzar farma aur hamein baqsh de aur ham par rahem kar! tu hi hamara malik hai hamein kafiron ki qaum par ghalba ata farma.

08

﴿رَبَّنَا إِنَّا أَمْنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

(حوالہ نمبر: 8)

﴿Transliteration﴾ Rabbana innana aamanna faghfir lana

thunoobana waqina AAathaba alnnari(16)

﴿ترجمہ﴾ "اے ہمارے رب! ہم ایمان لا چکے اس لئے ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔"

﴿Tarjama﴾ Aye Hamare rab ham emaan lachuke is liye hamare gunah maaf farma aur hamein aag ke azab se bacha

09

﴿اللَّهُمَّ مَالِكِ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

(شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿حوالہ نمبر: 9﴾)

﴿Transliteration﴾ Allaahumma malika almulki tutee almulka man tashao watanziAAu almulka mimman tashao watuAAizzu man tashao watuthillu man tashao biyadika alkhayru innaka AAala kulli shayin qadeerun(26)

﴿ترجمہ﴾ "اے اللہ! اے تمام جہان کے مالک تو جسے چاہے بادشاہی دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے اور تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔"

﴿ **Tarjama** ﴾ Aye ! Allaah ! aye tamaam jahanon ke maalik tu jise chahe baadshahi de aur jis se chaahе saltanat cheen le aur tu jise chahe zillat de, tere hi haat mein sab bhalaiyaan hain beshak tu har cheez par qadir hai.

10

﴿ **رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ** ﴾ (حوالہ نمبر: 10)

Rabbi hab lee min ladunka thurriyyatan tayyibatan innaka sameeAAu aldduAAai(38)

﴿ **ترجمہ** ﴾ "اے میرے پروردگار! مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔"

﴿ **Tarjama** ﴾ Aye mere parwardigaar mujhe apne paas se pakeeza aulaad ata farma beshak tu dua ka sunne waala hai.

11

﴿ **رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ** ﴾ (حوالہ نمبر: 11)

﴿ **Transliteration** ﴾ Rabbana amanna bima anzalta waittaaAAna alrrasoola faoktubna maAAa alshshahideena(53)

﴿ترجمہ﴾ "اے ہمارے پالنے والے معبود! ہم تیری اتاری ہوئی وحی پر ایمان لائے اور ہم نے تیرے رسول کی اتباع کی، پس تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے۔"

Aye Hamare paalne waale mabood! ham teri utaari huwi wahi par eemaan laae aur ham ne tere rasool ki itteba ki pas tu hamein gawahoon mein likh le.

12

﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا

عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ (حوالہ نمبر: 12)

﴿Transliteration﴾ Wama kana qawlahum illa an qaloo rabbana ighfir lana thunoobana waisrafana fee amrina wathabbit aqdamana waonsurna AAala alqawmi alkafireena(147)

﴿ترجمہ﴾ "اے پروردگار! ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم سے ہمارے کاموں میں جو بے جا زیادتی ہوئی ہے اسے بھی معاف فرما اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور ہمیں کافروں کی قوم پر مدد دے۔"

﴿Tajama﴾ Aye Parwardigaar hamare gunahon ko baksh de aur ham se hamare kamon mein jo beja ziyadati huwi hai use bhi maaf farma aur hamein sabit

qadmi ata farma aur hamein kaafiron ki qaum par madad de.

13

﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ (حوالہ نمبر: 13)

﴿Transliteration﴾ Hasbuna Allaahu waniAama alwakeelu (173)

﴿ترجمہ﴾ "ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کار ساز ہے۔"

﴿Tajama﴾ Hamein Allaah kaafi hai aur wo bahot acha kaarsaaz hai

14

﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ (191)

﴿رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تَدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾

﴿192﴾ ﴿رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ

فَأْمِنَّا رَبَّنَا فَاعْفُرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ

الْأَبْرَارِ﴾ (193) ﴿رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ

الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾ (194) (حوالہ نمبر: 14)

﴿Transliteration﴾ Rabbana ma khalaqta hatha batilan subhanaka faqina AAathaba alnnari (191) Rabbana

innaka man tudkhili alnnara faqad akhzaytahu wama
 liltthalimeena min ansarin (192) Rabbana innana
 samiAAna munadiyan yunadee lileemani an aminoo
 birabbikum faamanna rabbana faighfir lana
 thunoobana wakaffir AAanna sayyiatina
 watawaffana maAAa alabrari (193) Rabbana waatina
 ma waAAadtana AAala rusulika wala tukhzina
 yawma alqiyamati innaka la tukhlifu almeAAada
 (194)

﴿ترجمہ﴾ "اے ہمارے پروردگار! تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک
 ہے پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچالے (191) اے ہمارے پالنے والے!
 تو جسے جہنم میں ڈالے یقیناً تو نے اسے رسوا کیا، اور ظالموں کا مددگار کوئی نہیں
 (192) اے ہمارے رب! ہم نے سنا کہ منادی کرنے والا با آواز بلند ایمان کی
 طرف بلارہا ہے کہ لوگو! اپنے رب پر ایمان لاؤ، پس ہم ایمان لائے۔ یا الہی اب
 تو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے اور ہماری موت
 نیکوں کے ساتھ کر (193) اے ہمارے پالنے والے معبود! ہمیں وہ دے جس
 کا وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی کیا ہے اور ہمیں قیامت کے دن رسوا
 نہ کر، یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کرتا (194)۔"

﴿Tajama﴾ Aye hamare parwardigaar! Tu ne ye be
 faeda nahi banaya tu paak hai hamein aag ke azab se
 bacha le (191) aye hamare paalne waale tu jisey

jahannam me daale yaqeenan tu ne usey ruswa kiya aur zalimon ka madadgaar koi nahi (192)aye hamare rab ! ham ne suna ke munaadi karne waala ba`awaaz buland emaan ki taraf bula raha hai ke logo ! apne rab par emaan laao pas ham emaan laae ya ilaahi ab tu hamare gunaah maaf farma aur hamari buraiyan ham se door karde aur hamari maut nekon ke saath kar(193)Aye hamare paalney waaley ma`abood hamein wo de jis ka wada tu ne ham se apne rasoolon ki zabani kiya hai aur hamein qiyamat ke din ruswa na kar yaqeenan tu wada khilaafi nahi karta (19

15

﴿وَجَعَلْنَا لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا﴾

(حوالہ نمبر: 15)

﴿Transliteration﴾ WaijAAal lana min ladunka waliyyan waijAAal lana min ladunka naseeran(75)

﴿ترجمہ﴾ "اور ہمارے لئے خود اپنے پاس سے حمایتی مقرر کر دے اور ہمارے لئے خاص اپنے پاس سے مددگار بنا۔"

﴿Tarjama﴾ Aur hamare liye apne pass se himayati muqarrar karde aur hamare liye khaas apne paas se madadgaar bana

﴿ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴾ (حوالہ نمبر: 16)

﴿ Transliteration ﴾ Rabbana amanna faoktubna maAAa alshshahideena(83)

﴿ ترجمہ ﴾ "اے ہمارے رب! ہم ایمان لے آئے پس تو ہم کو بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ لے جو تصدیق کرتے ہیں۔"

﴿ Tarjama ﴾ Aye hamare rab ham emaan laae pas tu ham ko bhi un logon ke saath likh le jo tasdeeq kartey hain

﴿ إِنَّ تَعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ ﴾

﴿ الْحَكِيمُ ﴾ (حوالہ نمبر: 17)

﴿ Transliteration ﴾ In tuAAaththibhum fainnahum AAibaduka wain taghfir lahum fainnaka anta alAAazeezu alhakeemu(118)

﴿ ترجمہ ﴾ "اگر تو ان کو سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو ان کو معاف فرما دے تو، تو زبردست ہے حکمت والا ہے۔"

﴿ Tarjama ﴾ Agar tu un ko saza de to ye tere bande hain aur agar tu un ko maaf farmade to tu zabardast hai hikmat waala hai

﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا

مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (حوالہ نمبر: 18)

﴿Transliteration﴾ Innee wajahtu wajhiya lillathee fatara
alssamawati waalarda haneefan wama ana mina
almushrikeena(79)

﴿ترجمہ﴾ "میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور
زمین کو پیدا کیا کیسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔"

﴿Tajama﴾ Main apna rukh us ki taraf karta hun jis ney
aasmaanon aur zameen ko paida kiya yaksoo hokar
aur main shirk karne walon mein se nahi hun

﴿إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

(حوالہ نمبر: 19)

﴿Transliteration﴾ Inna salatee wanusukee wamahyaya
wamamatee lillahi rabbi alAAalameena(162)

﴿ترجمہ﴾ "بالیقین میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا
مرنا یہ سب خالص اللہ ہی کا ہے جو سارے جہان کا مالک ہے۔"

﴿Tajama﴾ Bilyaqeen meri namaz aur meri qurbani
aur mera jeena mera marna ye sab khalis Allaah hi ka
hai jo saare jahaan ka maalik hai

﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾

(حوالہ نمبر: 20)

﴿ Transliteration ﴾ Rabbana thalamna anfusana wain lam taghfir lana watarhamna lanakoonanna mina alkhasireena(23)

﴿ ترجمہ ﴾ "اے ہمارے رب! ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔"

﴿ Tajama ﴾ Aye Hamare rab hamne apna bada nukhsaan kiya aur agar tu hamari maghfirat na karega aur ham par rahem na karega to waqa'ee ham nukhsaan paane walon mein se hojaenge

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ﴾

(حوالہ نمبر: 21)

﴿ Transliteration ﴾ Alhamdu lillahi allathee hadana lihatha wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allaahu

﴿ ترجمہ ﴾ "اللہ کا (لاکھ لاکھ) شکر ہے جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچایا

اور ہماری کبھی رسائی نہ ہوتی اگر اللہ تعالیٰ ہم کو نہ پہنچاتا۔"

Tarjama Allaah ka (laakh laakh) shukr hai jis ney ham ko is muqaam tak pohanchaya aur hamari kabhi rasai na hoti agar Allaah ta'ala ham ko na pohanchata

22

﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ (حوالہ نمبر: 22)

Transliteration Rabbana la tajAAalna maAAa alqawmi alththalimeena(47)

تہجہ "اے ہمارے رب! ہم کو ان ظالموں لوگوں کے ساتھ شامل نہ کر۔"

Tarjama Aye hamare rab ham ko un zalim logon key saath shaamil na kar.

23

﴿رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ﴾ (حوالہ نمبر: 23)

Transliteration Rabbana afrigh AAalayna sabran watawaffana muslimeena(126)

تہجہ "اے ہمارے رب! ہمارے اوپر صبر کا فیضان فرما اور ہماری جان حالت اسلام پر نکال۔"

Tarjama Aye Hamare rab hamare oopar sabr ka faizan farma aur hamari jaan haalat e islam par nikaal

﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلَاخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾

(حوالہ نمبر: 24)

﴿Transliteration﴾ Rabbi ighfir lee waliakhee waadkhilna fee rahmatika waanta arhamu alrrahimeena(151)

﴿ترجمہ﴾ "اے میرے رب! میری خطا معاف فرما اور میرے بھائی کی بھی اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔"

﴿Tajama﴾ Aye Mere rab meri khata maaf farma aur mere bhai ki bhi aur ham dono ko apni rahmat mein dakhil farma aur tu sab rahem karne waalon se zyada rahem karne waala hai.

﴿حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾

(حوالہ نمبر: 25)

﴿Transliteration﴾ Hasbiya Allaahu la ilaha illa huwa AAalayhi tawakkaltu wahuwa rabbu alAAarshi alAAatheemi(129)

﴿ترجمہ﴾ "میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔"

میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے "

﴿ **Tarjama** ﴾ Mere liye Allaah kafi hai uske siwa koi ma`bood e barhaq nahi main ne usi par bharosa kiya aur wo bade arsh ka maalik hai.

26

﴿ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي

وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ (حوالہ نمبر: 26)

﴿ **Transliteration** ﴾ Rabbi innee aAAoothu bika an asalaka ma laysa lee bihi AAilmun wailla taghfir lee watarhamnee akun mina alkhasireena(47)

﴿ **ترجمہ** ﴾ "میرے پالنہار میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہ ہو اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور تو مجھ پر رحم نہ فرمائے گا، تو میں خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤں گا۔"

﴿ **Tarjama** ﴾ Mere paalanhaar main teri hi panah cahta hun is baat se ke tujh se wo maangun jis ka mujhe ilm hi na ho, agar tu mujhe na bakhshega aur tu mujh par rahem na farmaega to main khasara paane walon me se hojaoonga.

27

﴿ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا

﴿إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (حوالہ نمبر: 27)

﴿Transliteration﴾ Innee tawakkaltu AAala Allaahi rabbee warabbikum ma min dabbatin illa huwa akhithun binasiyatiha inna rabbee AAala siratin mustaqeemin (56)

﴿ترجمہ﴾ "میرا بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہی ہے، جو میرا اور تم سب کا پروردگار ہے جتنے بھی پاؤں دھرنے والے ہیں سب کی پیشانی وہی تھامے ہوئے ہے۔ یقیناً میرا رب بالکل صحیح راہ پر ہے۔"

﴿Tajama﴾ Mera bharosa sirf Allaah tala par hi hai jo mera aur tum sabka parwardigaar hai jitney bhi pa`aon dharne waaley hain sab ki peeshani wahi thaame huwe hai yaqeenan mera rab bilkul sahih raah par hai.

28

﴿وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ (حوالہ نمبر: 28)

﴿Transliteration﴾ Wama tawfeegee illa biAllaahi AAalayhi tawakkaltu wailayhi oneebu(88).

﴿ترجمہ﴾ "میرا ارادہ تو اپنی طاقت بھر اصلاح کرنے کا ہی ہے۔ میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔"

﴿ **Tarjama** ﴾ Mera irada to apni taqat bhar islah karne ka hi hai meri taufeeq Allaah hi ki madad se hai usi par mera bharosa hai aur usi ki taraf main rujoo karta hun

﴿ 29 ﴾

﴿ **فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ** ﴾ (حوالہ نمبر: 29)

﴿ **Transliteration** ﴾ FaAllaahu khayrun hafithan wahuwa arhamu alrrahimeena(64)

﴿ **ترجمہ** ﴾ "بس اللہ ہی بہترین حافظ ہے اور وہ سب مہربانوں سے بڑا

مہربان ہے۔"

﴿ **Tarjama** ﴾ Bas Allaah hi bahtareen hafiz hai aur wo sab maherbaano se bada maherbaan hai

﴿ 30 ﴾

﴿ **إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزِّي إِلَى اللَّهِ** ﴾ (حوالہ نمبر: 30)

﴿ **Transliteration** ﴾ Innama ashkoo baththee wahuznee ila Allaahi(86)

﴿ **ترجمہ** ﴾ "میں تو اپنی پریشانیوں اور رنج کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا

ہوں۔"

﴿ **Tarjama** ﴾ Main to apni paireshaaniyon aur ranj ki faryaad Allaah hi se karraha hoon.

﴿ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي

مُسْلِمًا وَالْحَقِيقِي بِالصَّالِحِينَ ﴾ (حوالہ نمبر: 31)

﴿ Transliteration ﴾ Fatira alssamawati waalardi anta waliyyee fee alddunya waalakhirati tawaffanee musliman waalhiqnee bialssaliheena(101)

﴿ ترجمہ ﴾ "اے آسمان وزمین کے پیدا کرنے والے! تو ہی دنیا و آخرت میں میرا ولی (دوست) اور کارساز ہے، تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کر اور نیکیوں میں ملا دے۔"

﴿ Tarjama ﴾ Aye Aasman wa zameen ke paida karne waale tu hi dunya wa aakhirat mein mera wali (dost) aur kaarsaaz hai, Tu mujhe islam ki haalat mein faut kar aur nekon mein milade.

﴿ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ﴾

(حوالہ نمبر: 32)

﴿ Transliteration ﴾ Rabbi ijAAal hatha albalada aminan waoj nubnee wabaniyya an naAAabuda alasnama(35).

﴿ ترجمہ ﴾ "اے میرے پروردگار! اس شہر کو امن والا بنا دے، اور مجھے

اور میری اولاد کو بت پرستی سے پناہ دے۔"

﴿**Tarjama**﴾ Aye mere parwardigaar is shaher ko aman waala bana de aur mujhe aur meri aulad ko butt parasti se panah de.

33

﴿**رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعَلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ**

﴿**فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ**﴾ (حوالہ نمبر: 33)

﴿**Transliteration**﴾ Rabbana innaka taAAalamu ma nukhfee wama nuAAalinu wama yakhfa AAala Allaahi min shayin fee alardi wala fee alssamai(38).

﴿**ترجمہ**﴾ "اے ہمارے پروردگار! تو خوب جانتا ہے جو ہم چھپائیں اور جو ظاہر کریں۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں۔"

﴿**Tarjama**﴾ Aye Hamare parwardigaar tu khoob jaanta hai jo ham chupaein aur jo zaahir karein zameen o aasmaan ki koi cheez Allaah par posheeda nahi.

34

﴿**رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ**

﴾ (حوالہ نمبر: 34)

﴿**Transliteration**﴾ Rabbi ijAAalnee muqeema alssalati

wamin thurriyyatee rabbana wtaqabbal duAAai(40).

﴿ترجمہ﴾ "اے میرے پالنے والے! مجھے نماز کا پابند رکھ اور میری اولاد سے بھی، اے ہمارے رب میری دعا قبول فرما۔"

﴿Tarjama﴾ Aye Mere paalne waale mujhe namaz ka paband rakh aur meri aulaad se bhi, aye hamare rab meri dua qabool farma.

35

﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾

(حوالہ نمبر: 35)

﴿Transliteration﴾ Rabbana ighfir lee waliwalidayya walilmumineena yawma yaqoomu alhisabu(41)

﴿ترجمہ﴾ "اے ہمارے پروردگار! مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش اور دیگر مومنوں کو بھی بخش جس دن حساب ہونے لگے۔"

﴿Tarjama﴾ Aye Hamare parwardigaar mujhe baqsh de aur mere maa baap ko bhi baqsh aur digar mominon ko bhi baqsh jis din hisaab hone lage.

36

﴿رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾ (حوالہ نمبر: 36)

﴿Transliteration﴾ Rabbi irhamhuma kama rabbayanee sagheeran.

﴿ترجمہ﴾ "اے میرے پروردگار! ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی ہے۔"

﴿Tarjama﴾ Aye Mere parwardigaar un par waisa hi rahem kar jaisa unhon ne mere bachpan mein meri parwarish ki hai.

37

﴿رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاَجْعَلْ لِّيْ

مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا﴾ (حوالہ نمبر: 37)

﴿Transliteration﴾ Rabbi adkhilnee mudkhala sidqin waakhrijnee mukhraj sidqin waijAAal lee min ladunka sultan naseeran(80).

﴿ترجمہ﴾ "اے میرے پروردگار مجھے جہاں لے جا اچھی طرح لے جا اور جہاں سے نکال اچھی طرح نکال اور میرے لئے اپنے پاس سے غلبہ اور امداد مقرر فرمادے۔"

﴿Tarjama﴾ Aye Mere parwardigaar mujhe jahan leja achi tarah leja aur jahan se nikaal achi tarah nikaal aur mere liye apne paas se ghalba aur imdaad muqarrar farma de.

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وِليٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبْرُهُ تَكْبِيرًا﴾ (حوالہ نمبر: 38)

Transliteration Alhamdu lillahi allathee lam yattakhith waladan walam yakun lahu shareekun fee almulki walam yakun lahu waliyyun mina alththulli wakabbirhu takbeeran(111).

ترجمہ "تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جو نہ اولاد رکھتا ہے نہ اپنی بادشاہت میں کسی کو شریک و سا جھی رکھتا ہے اور نہ وہ کمزور ہے کہ اسے کسی حمایتی کی ضرورت ہو اور تو اس کی پوری پوری بڑائی بیان کرتا رہ۔"

Tarjama Tamaam tareefein Allaah hi ke liye hain jo na aulaad rakhta hai na apni baadshahat mein kisi ko shareek wa saajhi rakhta hai aur na wo kamzoor hai ke ise kisi himayati ki zaroorat ho aur tu us ki poori poori badai bayan karta reh.

﴿رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾

(حوالہ نمبر: 39)

Transliteration Rabbana atina min ladunka rahmatan wahayyi lana min amrina rashadan(10)

﴿ترجمہ﴾ "اے ہمارے پروردگار! ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لئے راہ یابی کو آسان کر دے۔"

﴿Tarjama﴾ Aye hamare parwardigaar hamein apne paas se rahmat ata farma aur hamare kaam mein hamare liye raahyaabi ko asaan karde.

40

﴿هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا﴾ (حوالہ نمبر: 40)

﴿Transliteration﴾ Hab lee min ladunka waliyyan.

﴿ترجمہ﴾ "مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما۔"

﴿Tarjama﴾ Mujhe apne paas se waaris ata farma.

41

﴿رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي﴾ ﴿25﴾ ﴿وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي﴾ ﴿26﴾ ﴿وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي﴾ ﴿27﴾ ﴿يَفْقَهُوا قَوْلِي﴾ ﴿28﴾ ﴿وَاجْعَلْ لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي﴾ ﴿29﴾ (حوالہ نمبر: 41)

﴿Transliteration﴾ Rabbi ishrah lee sadree (25) Wayassir lee amree (26) Waohlul AAuqdatan min lisanee (27) Yafqahoo qawlee (28) WaijAAal lee wazeeran min ahlee(29).

﴿ترجمہ﴾ "میرا سینہ میرے لئے کھول دے (25) اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے (26) اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے (27) تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں (28) اور میرا وزیر میرے کنبے میں سے کر دے (29)۔"

﴿Tarjama﴾ Mera seena mere liye khood de (25) Aur mere kaam ko mujh par aasaan karde (26) Aur meri zaban ki girah bhi khol de (27) Taake log meri baat achi tarah samajh sakein (28) Aur mera wazeer mere kunbe mein se karde(29).

42

﴿رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ (حوالہ نمبر: 42)

﴿Transliteration﴾ Rabbi zidnee ilman(114).

﴿ترجمہ﴾ "پروردگار! میرا علم بڑھا۔"

﴿Tarjama﴾ Parwardigaar mera ilm badha de.

43

﴿رَبِّ اٰنِي مَسْنِي الضُّرِّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ﴾

(حوالہ نمبر: 43)

﴿Transliteration﴾ (Rabbi) annee massaniya alddurru waanta arhamu alrrahimeena(83).

﴿ترجمہ﴾ "اے میرے پروردگار! مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔"

﴿Tarjama﴾ Aye Mere parwardigaar) mujhe ye bimaari lag gai hai aur tu rahem karne waalon se zyada rahem karne waala hai.

44

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾

(حوالہ نمبر: 44)

﴿Transliteration﴾ La ilaha illa anta subhanaka innee kuntu mina alththalimeena(87).

﴿ترجمہ﴾ "الہی! تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو پاک ہے، بیشک میں ظالموں میں ہو گیا۔"

﴿Tarjama﴾ Ilaahi! tere siwa koi ma`bood e barhaq nahi tu paak hai beshak main zalimon mein hogaya.

45

﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾ (حوالہ نمبر: 45)

﴿Transliteration﴾ Rabbi la tatharnee fardan waanta khayru alwaritheena(89)

﴿ترجمہ﴾ "اے میرے پروردگار! مجھے تنہا نہ چھوڑ، تو سب سے بہتر وارث ہے۔"

﴿ **Tarjama** ﴾ Aye Mere parwardigaar mujhe tanha na chhodh tu sab se bahtar waaris hai.

﴿ 46 ﴾

﴿ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا

تَصِفُونَ ﴾ (حوالہ نمبر: 46)

﴿ **Transliteration** ﴾ Rabbi ohkum bialhaqqi warabbuna alrrahmanu almustaAAanu AAala ma tasifoona(112)

﴿ **ترجمہ** ﴾ "اے رب! انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما اور ہمارا رب بڑا مہربان ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو۔"

﴿ **Tarjama** ﴾ Aye Rab insaaf ke saath faisla farma aur hamara rab bada maherbaan hai jis se madad talab ki jati hai un baaton par jo tum bayan karte ho.

﴿ 47 ﴾

﴿ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ (حوالہ نمبر: 47)

﴿ **Transliteration** ﴾ Rabbi fala tajAAalnee fee alqawmi alththalimeena(94).

﴿ **ترجمہ** ﴾ "اے رب! تو مجھے ان ظالموں کے گروہ میں نہ کرنا۔"

﴿ **Tarjama** ﴾ Aye Rab tu mujhe in zalimon ke giroh mein na karna.

﴿رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ﴾ (97) ﴿وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ

يَحْضُرُونِ﴾ (98) ﴿حوالہ نمبر: 48﴾

﴿Transliteration﴾ Rabbi aAAoothu bika min hamazati alshshayateeni (97) WaaAAoothu bika rabbi an yahdurooni(98).

﴿ترجمہ﴾ "اے میرے پروردگار! میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں (97) اور اے رب! میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آجائیں" (98)۔

﴿Tajama﴾ Aye mere parwardigaar main shaitaano ke waswason se teri panaah cahta hun (97) aur aye rab! main teri panah cahta hun ke wo mere paas aajaain (98).

﴿رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾

﴿حوالہ نمبر: 49﴾

﴿Transliteration﴾ Rabbana amanna faighfir lana wairhamna waanta khayru alrrahimeena.

﴿ترجمہ﴾ "اے ہمارے پروردگار! ہم ایمان لائے ہیں تو ہمیں بخش اور

ہم پر رحم فرما تو سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔"

Tarjama Aye Hamarey parwardigaar ham emaan lachuke hain tu hamein baqsh aur ham par rahem farma tu sab maherbaanon se zyada maherbaan hai.

50

﴿رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾ (حوالہ نمبر: 50)

Transliteration Rabbi ighfir wairham waanta khayru alrrahimeena(118)

تہجد "اے میرے رب! تو بخش اور رحم کر اور تو سب مہربانوں سے بہتر مہربانی کرنے والا ہے۔"

Tarjama Aye Mere rab tu baqsh aur rahem kar aur tu sub maherbaanon se behtar maherbani karnay waala hai.

51

﴿رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا﴾ (65)

﴿إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا﴾ (66) (حوالہ نمبر: 51)

Transliteration Rabbana isrif AAanna AAathaba jahannama inna AAathabaha kana gharaman (65) Innaha saat mustaqarran wamuqaman(66)

تہجد "اے ہمارے پروردگار! ہم سے دوزخ کا عذاب پرے ہی

پرے رکھ، کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے (65) بے شک وہ ٹھہرنے اور رہنے کے لحاظ سے بدترین جگہ ہے (66)۔"

Tarjama Aye Hamare parwardigaar ham se dozakh ka azab pare rakh kyun ke us ka azab chimat jaane waala ha.

52

﴿رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ

إِمَامًا﴾ (حوالہ نمبر: 52)

Transliteration Rabbana hab lana min azwajina wathurriyyatina qurrata aAAyunin waijAAalna lilmuttaqeen (74)

"اے ہمارے پروردگار! تو ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔"

Tarjama Aye hamare Parwardigaar! Tu hamein hamari biwiyon aur hamari aulaad ki taraf se aankhon ki thandak ata farma. Aur hamein parhezgaron ka peshwa bana.

53

﴿رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَالْحَقِّنِي بِالصَّالِحِينَ﴾ (83) ﴿وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ

صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ﴿84﴾ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ

النَّعِيمِ ﴿85﴾ ﴿حوالہ نمبر: 53﴾

﴿Transliteration﴾ Rabbi hab lee hukman waalhiqnee bialssaliheena (83) WaijAAal lee lisana sidqin fee alakhireena (84) WaijAAalnee min warathati jannati alnnaAAeemi(85)

﴿ترجمہ﴾ "اے میرے رب! مجھے قوت فیصلہ عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما (83) اور میرا ذکر خیر پچھلے لوگوں میں بھی باقی رکھ (84) مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے بنا دے (85)۔"

﴿Tajama﴾ Aye mere Rabb! Mujhe quwwat e faisla ata farma. Aur mujhe nek logon mein shamil farma. Aur mera zikr e khair pahle logon mein baqi rakh. Aur mujhe nematon waali jannat ke warison mein se bana

54

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ﴾

﴿حوالہ نمبر: 54﴾

﴿Transliteration﴾ Alhamdu lillahi allathee faddalana AAala katheerin min AAibadihi almumineena(15)

﴿ترجمہ﴾ "تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے

ایماندار بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔"

Tarjama Tamam tareef us Allaah ke liye hai jis ne hamein apne bahot se momin bandon par fazilat ata farmai.

55

﴿رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأُدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ﴾

(حوالہ نمبر: 55)

Transliteration Rabbi awziAanee an ashkura niAAmataka allatee anAAamta AAalayya waAAala walidayya waan aAAamala salihan tardahu waadkhilnee birahmatika fee AAibadika alssaliheena (19)

"اے پروردگار! تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجالاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہیں اور میرے ماں باپ پر اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جن سے تو خوش رہے مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر لے۔"

Tarjama Aye mere Parwardigar. Mujhe taufeeq de ke main teri un nematon ka shukr ada karoon jo tu ne mujh par aur mere maa baap par ata farmai hain. Aur

main aise nek aamaal karta rahoon jin se tu raazi ho jaye. Aur mujhe apni rahmat se apne nek bandon mein shamil farma.

56

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ﴾ (حوالہ نمبر: 56)

Transliteration Alhamdu lillahi wasalamun AAala AAibadihi allatheena istafa

تہجد "تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے برگزیدہ بندوں

پر سلام ہے۔"

Tarjama Tamaam tareef Allaah hi ke liye hai. Aur us ke barguzida bandon par salam hai.

57

﴿رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغْفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾

(حوالہ نمبر: 57)

Transliteration Rabbi innee thalamtu nafsee faighfir lee faghafara lahu innahu huwa alghafooru alrraheemu (16)

تہجد "اے پروردگار! میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، تو مجھے معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا، وہ بخشش اور بہت مہربانی کرنے والا

ہے۔"

﴿ **Tarjama** ﴾ Aye mere Parwardigar! Main ne apni jaan par khud zulm kiya. Tu mujhe bakhsh de. To Allaah ne use bakhsh diya. Beshak wo bahot bakhashne waala aur bahot meherbaan hai.

58

﴿ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ (حوالہ نمبر: 58)

﴿ **Transliteration** ﴾ Rabbi najjinee mina alqawmi alththalimeena(21)

﴿ **ترجمہ** ﴾ "اے پروردگار! مجھے ظالموں کے گروہ سے بچالے۔"

﴿ **Tarjama** ﴾ Aye mere Parwardigar! Mujhe zalimon ke giroh se bacha le.

59

﴿ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴾ ﴿17﴾ وَ لَهُ

الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿18﴾

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ

بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿19﴾ (حوالہ نمبر: 59)

﴿ **Transliteration** ﴾ Fasubhana Allaahi heena tumsoona waheena tusbihoona (17) Walahu alhamdu fee

alssamawati waalardi waAAashiyyan waheena
tuthhiroona (18) Yukhriju alhayya mina almayyiti
wayukhriju almayyita mina alhayyi wayuhyee alarda
baAAda mawtiha wakathalika tukhrajooona(19)

﴿ترجمہ﴾ "پس اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھا کرو جب کہ تم شام کرو اور جب صبح
کرو (17) تمام تعریفوں کے لائق آسمان وزمین میں صرف وہی ہے تیسرے
پہر کو اور ظہر کے وقت بھی (اس کی پاکیزگی بیان کرو) (18) (وہی) زندہ کو
مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ اور وہی زمین کو اس کی موت کے بعد
زندہ کرتا ہے اسی طرح تم (بھی) نکالے جاؤ گے (19)۔"

﴿Tajama﴾ Pas Allaah ki tasbeeh bayan kiya karo jab
tum shaam karo aur jab subah karo. Aur tamam tareef
sif usi ke liye hai jo aasmanon aur zameen mein hai.
Teesre pehar aur zuhr ke waqt bhi usi ki paaki bayan
karo. Wahi zinda ko murda se nikalta hai aur murda
ko zinda se. Aur wahi zameen ko us ki maut ke baad
zinda karta hai. Isi tarah tum bhi nikale jaoge.

60

﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ﴾

(حوالہ نمبر: 60)

﴿Transliteration﴾ Waqaloo alhamdu lillahi allathee athhaba
AAanna alhazana inna rabbana laghafoorun

shakoorn(34)

﴿تہذیب﴾ "اللہ کالا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کیا۔ بے شک

ہمارا پروردگار بڑا بخشنے والا بڑا قادر دان ہے۔"

﴿Tarjama﴾ Allaah ka laakh laakh shukar hai jis ne ham se gham door kar diya. Beshak hamara Rabb bahot bakhshne waala aur bahot qadr karne waala hai.

61

﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ (حوالہ نمبر: 61)

﴿Transliteration﴾ Rabbi hab lee mina alssaliheena(100)

﴿تہذیب﴾ "اے میرے رب! مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما۔"

﴿Tarjama﴾ Aye mere Rabb! Mujhe nek aur ba-barkat aulaad ata farma.

62

﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ (180) ﴿وَسَلَامٌ عَلٰی

الْمُرْسَلِينَ﴾ (181) ﴿وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (182)

(حوالہ نمبر: 62)

﴿Transliteration﴾ Subhana rabbika rabbi alAAaizzati AAamma yasifoona (180) Wasalamun AAala almursaleena (181) Waalhamdu lillahi rabbi

alAAalameena (182)

﴿ترجمہ﴾ "پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا ہے ہر اس چیز سے (جو مشرک) بیان کرتے ہیں (180) پیغمبروں پر سلام ہے (181) اور سب طرح کی تعریف اللہ کے لئے ہے جو سارے جہان کا رب ہے (182)۔"

﴿Tarjama﴾ Paak hai tera Rabb jo badi izzat waala hai un baaton se jo yeh log bayan karte hain. Aur paighambaron par salam ho. Aur tamam tareef Allaah ke liye hai jo tamaam jahanon ka Rabb hai.

63

﴿اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ

تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ (حوالہ نمبر: 63)

﴿Transliteration﴾ Allaahumma fatira alssamawati waalardi AAalima alghaybi waalshshahadati anta tahkumu bayna AAibadika fee ma kanoo feehi yakhtalifoona (46)

﴿ترجمہ﴾ "اے اللہ! آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، چھپے کھلے کے جاننے والے تو ہی اپنے بندوں میں ان امور کا فیصلہ فرمائے گا جن میں وہ الجھ رہے تھے۔"

﴿Tarjama﴾ Aye Allaah. Aasmanon aur zameen ke paida karne waale. Chhupi aur khuli cheezon ko

jaanne waale. Tu hi apne bandon ke darmiyan un baaton ka faisla karega jin mein wo ikhtilaf kar rahe hai.

64

﴿ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴾

(حوالہ نمبر: 64) ﴿ هُوَ إِلَهُ الْمَصِيرِ ﴾

﴿ Transliteration ﴾ Ghafiri alththanbi waqabili alttawbi shadeedi alAAiqabi thee alttawli la ilaha illa huwa ilayhi almaseeru(3)

﴿ ترجمہ ﴾ "گناہ کا بخشنے والا اور توبہ کا قبول فرمانے والا سخت عذاب والا انعام و قدرت والا، جس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں۔ اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے۔"

﴿ Tarjama ﴾ Gunahon ko bakhshne waala aur tauba qabool karne waala. Sakht azaab dene waala. Inaam aur qudrat waala. Us ke siwa koi mabood haqeeqi nahi. Usi ki taraf laut kar jana hai.

65

﴿ وَأَفْوُضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴾ (حوالہ نمبر: 65)

﴿ Transliteration ﴾ Waofawwidu amree ila Allaahi inna Allaaha baseerun bialAAibadi(44)

﴿ترجمہ﴾ "میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، یقیناً اللہ تعالیٰ بندوں کا نگران ہے۔"

﴿Tarjama﴾ Main apna maamla Allaah ke hawale karta hoon. Beshak Allaah apne bandon ko dekhne waala hai.

66

﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ﴾

(حوالہ نمبر: 66)

﴿Transliteration﴾ Subhana allathee sakhkhara lana hatha wama kunna lahu muqrineena(13)

﴿ترجمہ﴾ "پاک ذات ہے اس کی جس نے اسے ہمارے بس میں کر دیا حالانکہ ہمیں اسے قابو کرنے کی طاقت نہ تھی۔"

﴿Tarjama﴾ Paak hai wo zaat jis ne is sawari ko hamare qaboo mein kar diya. Warna ham mein is par qudrat na thi.

67

﴿سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾

(حوالہ نمبر: 67)

﴿Transliteration﴾ Subhana rabbi alssamawati waalardi rabbi alAAarshi AAamma yasifoona(82)

﴿ترجمہ﴾ "آسمانوں اور زمین اور عرش کا رب جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں اس سے (بہت) پاک ہے۔"

﴿Tajama﴾ Aasmanon aur zameen aur arsh ka Rabb un baaton se bahot paak hai jo yeh bayan karte hain.

68

﴿رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾

(حوالہ نمبر: 68)

﴿Transliteration﴾ Rabbi awziAAnee an ashkura niAAmataka allatee anAAamta AAalayya waAAala walidayya waan aAAamala salihan tardahu waaslih lee fee thurriyyatee innee tubtu ilayka wainnee mina almuslimeena(15)

﴿ترجمہ﴾ "اے میرے پروردگار! مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجالاؤں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کی ہے اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جن سے تو خوش ہو جائے اور تو میری اولاد بھی صالح بنا، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔"

﴿Tajama﴾ Aye mere Parwardigar. Mujhe taufeeq de ke main teri us nemat ka shukr ada karoon jo tu ne

mujh par aur mere maa baap par ata farmai. Aur yeh ke main aise nek aamaal karoon jin se tu raazi ho jaye. Aur tu meri aulaad ko bhi saalih bana. Main teri taraf rujoo karta hoon. Aur main Musalmanon mein se hoon.

69

﴿ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾

(حوالہ نمبر: 69) ﴿ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴾

﴿ Transliteration ﴾ FaiAAlam annahu la ilaha illa Allaahu waistaghfir lithanbika walilmumineena waalmuminati(19)

﴿ ترجمہ ﴾ "آپ یقین کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کریں اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے حق میں بھی۔"

﴿ Tarjama ﴾ Pas jaan lo ke Allaah ke siwa koi mabood e haqeeqi nahi. Aur apne gunahon ki maghfirat maango. Aur momin mardon aur momin aurton ke liye bhi.

70

﴿ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي

﴿قُلُوبَنَا غَلَا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾ (حوالہ نمبر: 70)

﴿Transliteration﴾ Rabbana ighfir lana waliikhwanina allatheena sabaqoona bialeemani wala tajAAal fee quloobina ghillan lillatheena amanoo rabbana innaka raofun raheemun(10)

﴿ترجمہ﴾ "اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں اور ایمان داروں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ (اور دشمنی) نہ ڈال، اے ہمارے رب بیشک تو شفقت و مہربانی کرنے والا ہے۔"

﴿Tarjama﴾ Aye hamare Parwardigar! Hamein bakhsh de. Aur hamare un bhaiyon ko bhi jo ham se pahle eemaan la chuke hain. Aur hamare dilon mein mominon ke liye koi keena na rakh. Aye hamare Rabb. Beshak tu bahot shafqat aur rahmat waala hai.

71

﴿رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾

(حوالہ نمبر: 71)

﴿Transliteration﴾ Rabbana AAalayka tawakkalna wailayka anabna wailayka almaseeru(4)

﴿ترجمہ﴾ "اے ہمارے پروردگار تجھی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے اور

تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹتا ہے۔"

﴿ **Tarjama** ﴾ Aye hamare Parwardigar! Ham ne tujh hi par bharosa kiya. Aur teri hi taraf rujoo karte hain. Aur teri hi taraf laut kar jaana hai.

72

﴿ **رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاعْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ**

﴿ **الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ** ﴾ (حوالہ نمبر: 72)

﴿ **Transliteration** ﴾ Rabbana la tajAAalna fitnatan lillatheena kafaroo waighfir lana rabbana innaka anta alAAazeezu alhakeemu(5)

﴿ **ترجمہ** ﴾ "ہمارے رب! تو ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال اور اے ہمارے پالنے والے ہماری خطاؤں کو بخش دے، بیشک تو ہی غالب، حکمت والا ہے۔"

﴿ **Tarjama** ﴾ Aye hamare Rabb! Hamein kafiron ke liye aazmaish ka zariya na bana. Aur aye hamare Parwardigar! Hamari khataon ko bakhsh de. Beshak tu hi ghalib aur hikmat waala hai.

73

﴿ **رَبَّنَا أَنْتُمْ لَنَا نُورٌ نَا وَاعْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ**

﴿ **حوالہ نمبر: 73** ﴾

﴿Transliteration﴾ Rabbana atmim lana noorana waighfir
lana innaka AAala kulli shayin qadeerun(8)

﴿ترجمہ﴾ "اے ہمارے رب ہمیں کامل نور عطا فرما اور ہمیں بخش دے
یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔"

﴿Tarjama﴾ Aye hamare Rabb! Hamein poora noor ata
farma. Aur hamein bakhsh de. Beshak tu har cheez
par qudrat rakhta hai.

74

﴿رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ﴾ (حوالہ نمبر: 74)

﴿Transliteration﴾ Rabbi ibni lee AAindaka baytan fee
aljannati(11)

﴿ترجمہ﴾ "اے میرے رب! میرے لیے اپنے پاس جنت میں مکان
بنا۔"

﴿Tarjama﴾ Aye mere Rabb! Mere liye apne paas
jannat mein ek ghar bana.

75

﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾

﴿وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا﴾ (حوالہ نمبر: 75)

﴿Transliteration﴾ Rabbi ighfir lee waliwalidayya waliman
dakhala baytiya muminan walilmumineena

waalmuminati wala tazidi alththalimeena illa tabaran
(28)

تہمہ "اے میرے پروردگار! تو مجھے اور میرے ماں باپ اور جو بھی
ایمان کی حالت میں میرے گھر میں آئے اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کو
بخش دے اور کافروں کو سوائے بربادی کے اور کسی بات میں نہ بڑھا۔"

Tarjama Aye mere Parwardigar! Mujhe bakhsh de.
Aur mere maa baap ko. Aur har us shakhs ko jo mere
ghar mein eemaan ki haalat mein aaye. Aur tamaam
momin mardon aur momin aurton ko. Aur kafiron ko
halaakat ke siwa kisi aur cheez mein na badha.





احادیث صحیحہ سے ماخوذ دعائیں
Ahadees-e-Sahiha
se Makhooz Duain



((اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَبِيرًا / كَثِيرًا ، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاعْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ)) (حوالہ نمبر: 1)

Transliteration Allaahumma inni zalamtu nafsi zulman kabeeran / katheeran, wa la yaghfiruz zunooba illa anta, faghfir li maghfiratan min indika, warhamni, innaka antal Ghafoorur Raheem.

ترجمہ "یا اللہ! میں نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا ہے / بہت ظلم کیا ہے اور گناہوں کو کوئی نہیں بخشتا سوائے تیرے تو بخش دے مجھے اپنے پاس کی بخشش سے اور رحم کر مجھ پر تو بخشنے والا مہربان ہے۔"

Tarjama Ya Allaah. Maine apne nafs par bahot bada zulm kiya hai ya bahot zyada zulm kiya hai. Aur gunahon ko koi bhi maaf nahi karta siwaye tere. Pas tu mujhe apni taraf se bakhsh de aur mujh par rahmat farma. Beshak tu hi bahot bakhshne waala aur bahot meharban hai.

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ [مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ ، وَسُوءِ

القضاء، وشماتة الأعداء). (حوالہ نمبر: 2)

Transliteration Allaahumma inni a'oozu bika min jahdil bala, wa darkish shaqa, wa soo il qaza, wa shamaatil a'da.

ترجمہ "اللہ سے پناہ مانگا کرو و آزمائش کی مشقت، بد بختی کی پستی، برے خاتمے اور دشمن کے ہنسنے سے۔"

Tarjama Allaah se panah maanga karo aazmaish ki sakhti se, badbakhti ki gehraai se, bure anjaam se, aur dushman ki hansii se.

03

لا إله إلا الله وحدهُ أعزُّ جندهُ ونَصْرُ عبدِهِ، وغلِبَ الأحزابُ

وحدهُ، فلا شيءُ بَعْدَهُ). (حوالہ نمبر: 3)

Transliteration La ilaha illAllaahu wahdahu, a'azza jundahu, wa nasara abdahu, wa ghalabal ahzaaba wahdah, fala shay'a ba'dah.

ترجمہ "اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ اکیلا ہے جس نے اپنے لشکر کو فتح دی۔ اپنے بندے کی مدد کی (یعنی نبی کریم ﷺ کی) اور احزاب (یعنی افواج کفار) کو تنہا بھگا دیا پس اس کے بعد کوئی چیز اس کے مد مقابل نہیں ہو سکتی۔"

Tarjama Allaah ke siwa koi mabood e haqeeqi nahi. Wo akela hai. Usi ne apne lashkar ko izzat di. Usi ne apne bande ki madad ki. Aur usi ne ahzaab ko akela hi shikast di. Is ke baad koi cheez us ke muqaable mein khadi nahi ho sakti.

04

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ، وَمِن
 فِتْنَةِ الْقَبْرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِن فِتْنَةِ النَّارِ، وَمِن شَرِّ فِتْنَةِ
 الْغِنَى، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ
 الدَّجَالِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ عَنِّي خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّ
 قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَبَاعِدْ
 بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ).

(حواله نمبر: 4)

Transliteration Allaahumma inni a'oozu bika minal kasali wal haram, wal ma'tham, wal maghram, wa min fitnatil qabr, wa 'azabil qabr, wa min fitnatinar, wa min sharri fitnatil ghina, wa a'oozu bika min fitnatil faqr, wa a'oozu bika min fitnatil masehid dajjal. Allaahummaghsil 'anni khatayaya bima'ith thalji wal

barad, wa naqqi qalbi minal khataya kama naqqaytas
thawbal abyada minad danas, wa ba'id bayni wa
bayna khatayaya kama ba'adta baynal mashriqi wal
maghrib.

” اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی سے، بہت زیادہ
بڑھاپے سے، گناہ سے، قرض سے اور قبر کی آزمائش سے اور قبر کے عذاب
سے اور دوزخ کی آزمائش سے اور دوزخ کے عذاب سے اور مال داری کی آزمائش
سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں محتاجی کی آزمائش سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں مسیح
دجال کی آزمائش سے۔ اے اللہ! مجھ سے میرے گناہوں کو برف اور اولے
کے پانی سے دھو دے اور میرے دل کو خطاؤں سے اس طرح پاک و صاف کر
دے جس طرح تو نے سفید کپڑے کو میل سے پاک صاف کر دیا اور مجھ میں
اور میرے گناہوں میں اتنی دوری کر دے جتنی مشرق اور مغرب میں دوری
ہے۔“

Tarjama Aye Allaah. Main teri panah chahta hoon
susti se, hadd se zyada budhape se, gunah se, qarz se.
Aur qabr ki aazmaish se aur qabr ke azaab se. Aur
dozakh ki aazmaish se aur dozakh ke azaab se. Aur
maaldaari ki aazmaish ke shar se. Aur main teri panah
chahta hoon faqr ki aazmaish se. Aur main teri panah
chahta hoon Maseeh Dajjal ki aazmaish se. Aye
Allaah. Mere gunahon ko barf aur ole ke paani se dho

de. Aur mere dil ko gunahon se aisa paak kar de jaise tu ne safed kapde ko mael se paak kar diya. Aur mere aur mere gunahon ke darmiyan itni doori kar de jitni mashriq aur maghrib ke darmiyan hai.

05

(سُونے سے پہلے کی دعا)

اللَّهُمَّ أَسَلْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ
ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَهْبَةً وَرَغْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَأَ مِنْكَ إِلَّا
إِلَيْكَ، أَمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ.

(حوالہ نمبر: 5)

Transliteration Allaahumma aslamtu wajhi ilaika, wa fauwadtu `Amri ilaika wa aljatu zahri ilaika, raghbatan wa rahbatan ilaika, lamalja'a wa la manja mink a ill a ilaika. Amantu bikitabi kalladhi anzalta wa bi nabiyyikal-ladhi arsalta.'

تہذیب

"اے اللہ! میں نے اپنے آپ کو تیری اطاعت میں دے دیا۔ اپنا سب کچھ تیرے سپرد کر دیا۔ اپنے معاملات تیرے حوالے کر دیئے۔ خوف کی وجہ سے اور تیری (رحمت و ثواب کی) امید میں، کوئی پناہ گاہ کوئی مخلص تیرے سوا نہیں، میں تیری کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل کی ہے اور تیرے نبی پر جن کو تو نے بھیجا ہے۔"

﴿ Tarjama ﴾ Aye Allaah. Maine apne aap ko tere supurd kar diya. Aur apna maamla tere hawale kar diya. Raghbat aur khauf ke saath. Tere siwa na koi panah hai aur na koi bachne ki jagah. Main teri us kitaab par eemaan laya jo tu ne naazil ki. Aur tere us Nabi par eemaan laya jise tu ne bheja.

06

(سونے سے پہلے کی دعا) **اللهم بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأُحْيَا.** (حوالہ نمبر: 6)

﴿ Transliteration ﴾ Allaahumma bismika amootu wa ahya.

﴿ ترجمہ ﴾ "اے اللہ تیرے ہی نام کے ساتھ میں مردہ اور زندہ رہتا ہوں۔"

﴿ Tarjama ﴾ Aye Allaah! Tere hi naam ke saath main zinda rahta hoon aur marta hoon.

07

(نیند سے بیدار ہونے کے بعد کی دعا) **((الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا**

بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ)) (حوالہ نمبر: 7)

﴿ Transliteration ﴾ Al-hamdu li l-lahil-ladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin-nushur".

﴿ ترجمہ ﴾ "اسی اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے ہمیں زندہ کیا۔"

اس کے بعد کہ اس نے موت طاری کر دی تھی اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔"

﴿ Tarjama ﴾ Tamaam tareef Allaah ke liye hai jis ne

hamein zinda kiya jab ke us ne hamein maut di thi.
 Aur usi ki taraf laut kar jana hai.

08

اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي بَصَرِي نُورًا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَعَنْ
 يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ يَسَارِي نُورًا، وَفَوْقِي نُورًا، وَتَحْتِي نُورًا، وَأَمَامِي
 نُورًا، خَلْفِي نُورًا، وَاجْعَلْ لِي نُورًا (حوالہ نمبر: 8)

Transliteration Allaihumma ij'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran, wa fi sam'i nuran, wa'an yamini nuran, wa'an yasari nuran, wa fawqi nuran, wa tahti nuran, wa amami nuran, wa khalfi nuran, waj'al li nuran".

تہذیب "اے اللہ! میرے دل میں نور پیدا کر، میری نظر میں نور پیدا کر، میرے کان میں نور پیدا کر، میرے دائیں طرف نور پیدا کر، میرے بائیں طرف نور پیدا کر، میرے اوپر نور پیدا کر، میرے نیچے نور پیدا کر میرے آگے نور پیدا کر، میرے پیچھے نور پیدا کر اور مجھے نور عطا فرما۔"

Tarjama Aye Allaah! Mere dil mein noor paida farma. Meri aankhon mein noor paida farma. Mere kaanon mein noor paida farma. Mere daaein noor paida farma. Mere baaein noor paida farma. Mere oopar noor paida farma. Mere neeche noor paida farma. Mere aage noor paida farma. Mere peeche

noor paida farma. Aur mujhe poora noor ata farma.

09

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ
الْحَمْدُ، أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ
أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ حَقٌّ، وَقَوْلُكَ حَقٌّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ
حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ،
اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَإِلَيْكَ أُنَبِّتُ،
وَبِكَ خَاصِمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكِمْتُ، فَاعْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ،
وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْبُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُوَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا

أَنْتَ (حواله نمبر: 9)

Transliteration "Allaahumma laka l-hamdu; Anta nurus-samawati wal ardi wa man fihinna. wa laka l-hamdu; Anta qaiyim as-samawati wal ardi wa man flhinna. Wa laka l-hamdu; Anta-l-haqqu, wa wa'duka haqqun, wa qauluka haqqun, wa liqauka haqqun, wal-jannatu haqqun, wannaru haqqun, was-sa atu haqqun, wan-nabiyyuna huqqun, Mahammadun haqqun,

Allaahumma laka aslamtu, wa Alaika tawakkaltu, wa bika amantu, wa ilaika anabtu, wa bika Khasamtu, wa ilaika hakamtu, faghfirli ma qaddamtu wa ma akh-khartu, wa ma asrartu, wa ma a'lantu. Anta al-muqaddimu, wa anta al-mu-'akhhiru. La ilaha il-la anta (or La ilaha ghairuka)"

﴿ترجمہ﴾ "اے اللہ! تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں تو آسمان و زمین اور ان میں موجود تمام چیزوں کا نور ہے، تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں تو آسمان اور زمین اور ان میں موجود تمام چیزوں کا قائم رکھنے والا ہے اور تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں، تو حق ہے، تیرا وعدہ حق ہے، تیرا قول حق ہے، تجھ سے ملنا حق ہے، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، قیامت حق ہے، انبیاء حق ہیں اور محمد رسول اللہ ﷺ حق ہیں۔ اے اللہ! تیرے سپرد کیا، تجھ پر بھروسہ کیا، تجھ پر ایمان لایا، تیری طرف رجوع کیا، دشمنوں کا معاملہ تیرے سپرد کیا، فیصلہ تیرے سپرد کیا، پس میری اگلی پچھلی خطائیں معاف کر۔ وہ بھی جو میں نے چھپ کر کی ہیں اور وہ بھی جو کھل کر کی ہیں تو ہی سب سے پہلے ہے اور تو ہی سب سے بعد میں ہے، صرف تو ہی معبود ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔"

﴿Tarjama﴾ Aye Allaah. Tere hi liye sab tareefein hain. Tu aasmanon aur zameen aur un mein maujood har cheez ka noor hai. Tere hi liye sab tareefein hain. Tu aasman aur zameen aur un mein maujood har

cheez ko qaim rakhne waala hai. Tere hi liye sab tareefein hain. Tu haq hai. Tera wada haq hai. Tera qaul haq hai. Tujh se mulaqat haq hai. Jannat haq hai. Dozakh haq hai. Qayamat haq hai. Ambiya haq hain. Aur Muhammad Rasoolullaah ﷺ haq hain. Aye Allaah! Maine apna maamla tere supurd kiya. Tujh par bharosa kiya. Tujh par eemaan laaya. Teri taraf rujoo kiya. Dushmanon ka faisla tere hawale kiya. Faisla bhi tere hi hawale kiya. Pas tu mere agle aur pichhle gunah maaf farma. Wo bhi jo chhupe hue hain aur wo bhi jo zahir hain. Tu hi awwal hai aur tu hi aakhir hai. Tere siwa koi mabood nah

10

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى
 كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ
 وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ (حوالہ نمبر: 10)

Transliteration "La ilaha illa l-lahu wahdahu la sharika lahu, lahu l-mulku wa lahu l-hamdu, wa huwa `ala kulli shay'in qadir. Allaahumma la mani`a lima a`taita, wa la mu`tiya lima mana`ta, wa la yanfa`u dhal-jaddi minka l-jadd.

اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ اس کا کوئی شریک نہیں

بادشاہت اس کی ہے اور تمام تعریف اسی کے لیے ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ جسے تو دے اس سے روکنے والا کوئی نہیں اور جسے تو نہ دے اسے دینے والا کوئی نہیں اور کسی مالدار کو اس کی دولت و مال تیری بارگاہ میں کوئی نفع نہ پہنچا سکیں گے۔"

﴿*Tarjama*﴾ Allaah ke siwa koi mabood nahi. Wo akela hai. Us ka koi shareek nahi. Baadshahi usi ki hai. Aur tamam tareef usi ke liye hai. Wo har cheez par qudrat rakhta hai. Aye Allaah. Jise tu de us ko koi rokne waala nahi. Aur jise tu na de us ko koi dene waala nahi. Aur kisi maal waale ko us ka maal tere paas koi faida nahi de sakta

11

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ،
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ، وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ.

(حوالہ نمبر: 11)

﴿*Transliteration*﴾ La ilaha illAllaahul azeemul haleem, la ilaha illAllaahu Rabbul 'arshil azeem, la ilaha illAllaahu Rabbus samawati wa Rabbul ard, wa Rabbul 'arshil kareem.

﴿*ترجمہ*﴾ "کوئی سچا معبود اللہ کے سوا نہیں جو عظیم ہے اور بردبار ہے،

کوئی معبود اللہ کے سوا نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے، کوئی معبود اللہ کے سوا نہیں جو آسمانوں کا رب ہے اور عرش کریم کا رب ہے۔

Tarjama koi saccha mabood Allaah ke siwa nahi jo azeem hai aur burdbaar hai , Koi mabood Allaah ke siwa nahi jo arsh e azeem ka Rabb hai, Koi mabood Allaah ke siwa nahi jo Aasmaano ka Rabb hai Arsh e Kareem ka Rabb hai

12

اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ

خَيْرًا لِي). (حوالہ نمبر: 12)

Transliteration Allaahumma ahyini ma kanatil hayatu khayran li, wa tawaffani iza kanatil wafatu khayran li.

ترجمہ "اے اللہ! جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے مجھے زندہ رکھ اور جب موت میرے لیے بہتر ہو تو مجھ کو اٹھالے۔"

Tarjama Aye Allaah ! Jab tak zindagi mere liye bahtar hai mujhe zinda rakh aur jab maut mere liye bahtar ho to mujh ko utha le"

13

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ،

وَالْبُخْلِ، وَالْجُبْنِ، وَضَلَعِ الدِّينِ وَغَلْبَةِ الرَّجَالِ)

(حوالہ نمبر: 13)

﴿Transliteration﴾ Allaahumma inni a'oozu bika minal hammi wal hazan, wal 'ajzi wal kasal, wal buhhl, wal jubn, wa dala'id dayn, wa ghalabatir rijaal.

﴿ترجمہ﴾ "اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم سے، رنج سے، عجز سے، سستی سے، بخل سے، بزدلی سے، قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کے غلبہ سے۔"

﴿Tajama﴾ Aye Allaah ! My teri panah mangta hun gham se,ranj se,ajz se,, susti se, buhhl se, buzdili se, qarz ke bojh se aur logon ke ghalbe se.

14

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ

(حوالہ نمبر: 14)

﴿Transliteration﴾ Allaahumma inni a'oozu bika minal 'ajzi wal kasal, wal jubn wal haram, wa a'oozu bika min 'azabil qabr, wa a'oozu bika min fitnatil mahya wal mamat.

﴿ترجمہ﴾ "اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں عاجزی سے، سستی سے،

بزدلی سے اور بہت زیادہ بڑھاپے سے اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں زندگی اور موت کی آزمائشوں سے۔"

Tarjama Aye Allaah! My teri panah maangta hun aajzi se, susti se, buzdili se, aur bahut zyada bhudhape se aur mai teri panah mangta hun zindagi aur maut ki azmayeshon se."

15

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (حوالہ نمبر: 15)

Transliteration La ilaha illAllaahu wahdahu la shareeka lah, la hul mulku wa la hul hamd, wa huwa 'ala kulli shay' in qadeer.

ترجمہ "نہیں ہے کوئی معبود حقیقی، سوا اللہ تعالیٰ کے، اس کا کوئی شریک نہیں، ملک اسی کا ہے۔ اور تمام تعریف اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔"

Tarjama "Nahi hai koi ma'bood e haqiqi ,siwae Allaah Taa'la ke ,uska koi shareek nahi ,mulk usi ka hai, aur tamaam tareef usi ke liye hai aur wo har cheez par qadir hai".

رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي، وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي كُلِّهِ، وَمَا أَنْتَ
 أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطَايَايَ، وَعَمْدِي وَجَهْلِي وَهَزْلِي،
 وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا
 أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْبِقَدَّمِ وَأَنْتَ الْبِأَخْرُ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ

شيءٍ قَدِيرٌ (حوالہ نمبر: 16)

Transliteration 'Rabbi-ghfir-li Khati 'ati wa jahli wa israfi
 fi `Amri kullihi, wa ma anta a'lamu bihi minni.
 Allaahumma ighfirli khatayaya wa 'amdi, wa jahli wa
 jiddi, wa kullu dhalika'indi. Allaahumma ighrifli ma
 qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma
 a'lantu. Anta-l-muqaddimu wa anta-l-mu'akh-
 khiru, wa anta 'ala kulli shai'in qadir'.

”میرے رب! میری خطا، میری نادانی اور تمام معاملات میں
 میرے حد سے تجاوز کرنے میں میری مغفرت فرما اور وہ گناہ بھی جن کو تو مجھ
 سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اے اللہ! میری مغفرت کر، میری خطاؤں میں،
 میرے بالا ارادہ اور بلا ارادہ کاموں میں اور میرے ہنسی مزاح کے کاموں میں اور

یہ سب میری ہی طرف سے ہیں۔ اے اللہ! میری مغفرت کر ان کاموں میں جو میں کر چکا ہوں اور انہیں جو کروں گا اور جنہیں میں نے چھپایا اور جنہیں میں نے ظاہر کیا ہے، تو سب سے پہلے ہے اور تو ہی سب سے بعد میں ہے اور تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔“

Tarjama "mere Rabb! Meri khata' meri nadani aur tamaam maamlaat mein mere hadd se tajawuz karne mein meri maghfirat farma aur wo gunah bhi jin ko tu mujh se zyada janne waala hai - Aye Allaah! Meri maghfirat kar, Meri khataon mein mere bil-irada aur bila irada kamo mein mere hansa mazaq ke kamo mein aur ye sab Meri hi taraf se hain, Aye Allaah! Meri maghfirat kar un kaamo mein jo mai kar chuka hun aur unhe jo karunga aur jinhe mai ne chupaya aur jinhe maine zaahir kiya hai, tu sab se pahle hai aur tu hi sab se baad mein hai aur tu har cheez par khudrat rakhne waala hai",

17

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ
وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ

مَّجِيدٌ (حوالہ نمبر: 17)

❖ **Transliteration** ❖ Allahumma salli ala Muhammadin wa ala aali Muhammad Kama sallaita ala Ibrahim wa ala aali Ibraheem Innaka Hameedum Majeed Allahumma barik ala Muhammadin wa ala aali Muhammad Kama barakta ala Ibrahim wa ala aali Ibraheem Innaka Hameedum Majeed

❖ **ترجمہ** ❖ اے اللہ! محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، جیسے تو نے ابراہیم عَلَيْهِ السَّلَام ان کی آل پر رحمت نازل فرمائی، بے شک تو تعریف کے لائق، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ! محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اور ان کی آل پر برکت نازل فرما، جیسے تو نے ابراہیم عَلَيْهِ السَّلَام اور ان کی آل پر برکت نازل کی، بے شک تو تعریف کے لائق، بزرگی والا ہے۔

❖ **Tarjama** ❖ Aye Allah! Muhammad sallallahu alaihi wa sallam aur un ki aal par rahmat nazil farma, jis tarah tune Ibraheem alaihis salam aur un ki aal par rahmat nazil farmai, beshak tu tareef ke laaiq, buzurgi wala hai. Aye Allah! Muhammad sallallahu alaihi wa sallam aur un ki aal par barkat naazil farma, jis tarah tune Ibraheem alaihis salam aur un ki aal par barkat naazil ki, beshak tu tareef ke laaiq, buzurgi wala hai.

سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللَّهِ وَحُسْنِ بَلَائِهِ عَلَيْنَا رَبَّنَا صَاحِبِنَا وَأَفْضَلُ

عَلَيْنَا عَائِدًا بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ. (حوالہ نمبر: 18)

Transliteration Sami'a saami'un bihamdillahi wa husni bala'ihī 'alayna. Rabbana sahibna wa afdil 'alayna, 'aa'izan billahi minan naar.

”سن لیا سننے والے نے اللہ کی حمد اور اس کے حسن بلا کو اے رب ہمارے! ساتھ رہ ہمارے (یعنی مدد سے) اور فضل کر ہم پر، پناہ مانگتا ہوں میں تیری جہنم سے۔“

Tarjama sun liya sunne waale ne Allaah ki hamd aur us ke husn e bala ko ,Aye Rabb hamare! Saath reh hamaray (yani madad se) aur fadhl kar ham par,panah mangta hun mai teri jahannam se."

اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةٌ أُمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ
الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، وَاجْعَلِ
الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ.

(حوالہ نمبر: 19)

Transliteration Allaahumma aslih li deeni alladhi huwa 'ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati feeha ma'ashi, wa aslih li aakhirati allati feeha ma'aadi, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khayr, waj'alil mawta raahatan li min kulli sharr.

ترجمہ "اے اللہ! میرے دین کو درست کر دے، جو میرے (دین و دنیا کے) ہر کام کے تحفظ کا ذریعہ ہے اور میری دنیا کو درست کر دے جس میں میری گزران ہے اور میری آخرت کو درست کر دے جس میں میرا (اپنی منزل کی طرف) لوٹنا ہے اور میری زندگی کو میرے لیے ہر بھلائی میں اضافے کا سبب بنا دے اور میری وفات کو میرے لیے ہر شر سے راحت بنا دے۔"

Tarjama Aye Allaah! Mere deen ko durust karde, jo mere (Deen o duniya ke) har kaam ke tahaffuz ka zariya hai aur meri duniya ko durust karde jis mein meri guzran hai aur meri akhirat ko durust karde jis mein mera (apni manzil ki taraf) lautna hai aur meri zindagi ko mere liye har bhalai mein izafe ka sabab bana de aur meri wafat ko mere liye har sharr se raahat banade"

20

اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي لِسَانِي نُورًا، وَفِي بَصَرِي نُورًا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ يَسَارِي نُورًا، وَمَنْ فَوْقِي نُورًا،

وَمِنْ تَحْتِي نُورًا، وَمِنْ أَمَامِي نُورًا، وَمِنْ خَلْفِي نُورًا، وَاجْعَلْ لِي فِي

نَفْسِي نُورًا، وَأَعْظِمْ لِي نُورًا۔ (حوالہ نمبر: 20)

﴿Transliteration﴾ Allaahumma ij'al fi qalbi noora, wa fi lisani noora, wa fi basari noora, wa fi sam'i noora, wa 'an yameeni noora, wa 'an yasaari noora, wa min fawqi noora, wa min tahti noora, wa min amaami noora, wa min khalfi noora, waj'al li fi nafsi noora, wa a'zim li noora.

﴿ترجمہ﴾ "اے اللہ! میرے دل میں نور پیدا فرما، اور میری زبان میں نور رکھ، اور میری نگاہوں میں نور پیدا فرما، اور میری سماعت میں نور رکھ، اور میرے دائیں جانب نور رکھ، اور میرے بائیں جانب نور رکھ، اور میرے اوپر نور رکھ، اور میرے نیچے نور رکھ، اور میرے آگے نور رکھ، اور میرے پیچھے نور رکھ۔ اور میرے باطن میں نور پیدا فرما، اور میرے لیے نور کو عظیم بنا دے۔"

﴿Tarjama﴾ aye Allaah! Mere dil mein noor paida farma aur meri zuban mein noor rakh, aur meri nigahon mein noor paida farma, aur meri sama'at mein noor rakh, aur mere dayein janib noor rakh, aur mere bayein janeb noor rakh, aur mere oopar noor rakh, aur mere niche noor rakh, aur mere aage noor rakh, aur mere pichey noor rakh aur mere baatin mein noor paida farma aur mere liye noor ko azeem banade.

اللَّهُمَّ احْفَظْنِي بِالْإِسْلَامِ قَائِماً، واحفظني بالإسلام قاعداً،
 واحفظني بالإسلام راقداً، ولا تُشِمِّتْ بي عدواً ولا حاسداً، اللَّهُمَّ
 إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ، وأعوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَرٍّ
 خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ (حوالہ نمبر: 21)

Transliteration Allaahumma ihfazni bil islaami qa'iman,
 wahfazni bil islaami qa'idan, wahfazni bil islaami
 raaqidan, wa la tushmit bi 'aduwwan wa la haasidan.
 Allaahumma inni as'aluka min kulli khayrin
 khazaa'inuhu biyadik, wa a'oozu bika min kulli
 sharrin khazaa'inuhu biyadik.

تجوید "اے اللہ! کھڑے ہونے کی حالت میں اسلام کے ساتھ میری
 حفاظت فرما اور بیٹھک کی حالت میں اسلام کے ساتھ میری حفاظت فرما اور نیند
 کی حالت میں اسلام کے ساتھ میری حفاظت فرما۔ میری تکلیف سے میرے
 حاسد دشمن کو خوش نہ کرنا۔ اے اللہ! میں تجھ سے ہر اس خیر کا سوال کرتا ہوں
 جس کے خزانے تیرے ہاتھ میں ہیں اور تیری پناہ چاہتا ہوں ہر اس شر سے
 جس کے خزانے تیرے پاس ہیں۔"

Tarjama Aye Allaah ! khade hone ki halat mein

Islam ke saath meri hifazat farma aur baithak ki halat mein mere islam ke saath meri hifazat farma aur neend ki halat mein islam ke saath meri hifazat farma,meri taklif se mere hasid dushman ko khush na karna, Aye Allaah! Mai tujh se har us khair ka sawal karta hun jis ke khazane tere haath mein hain,aur teri panah chahta hun har us sharr se jiske khazane tere paas hai.

22

اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَسْكِينًا، وَأَمْتِنِي مَسْكِينًا، واحشُرني في زُمْرَةِ

(المساكين). (حواله نمبر: 22)

Transliteration Allaahumma ahyini miskeena, wa amitni miskeena, wahshurni fi zumratil masakeen.

ترجمہ "اے اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ، مسکین بنا کر فوت کر، اور میرا حشر مسکینوں کے زمرے میں کر۔"

Tarjama Aye Allaah! Mujhe miskeeni ki haalat mein zinda rakh, miskeen bana kar faut kar, aur mera hashr miskeeno ke zumre mein kar

23

اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَتِي، وَأَمِنْ رَوْعَتِي، واقض عَنِّي دَيْنِي.

(حواله نمبر: 23)

Allaahumastur 'awrati, wa aamin raw'ati, waqdi 'anni dayni.

تہمت "اے اللہ! میری کمزوریوں اور عیبوں کو چھپا، میرے خوف و گھبراہٹ کو امن و سکون میں بدل دے، اور میرا قرض ادا کر دے۔"

Tarjama Aye Allaah! Meri kamzoriyon aur ayebon ko chupa, mere khauf o ghabrahat ko aman o sukoon mein badal de aur mera kharz ada karde.

24

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي، وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي، وَمَا أَنْتَ
أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئِي وَعَمْدِي، وَهَزْلي وَجِدِّي،
وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا
أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْمَقْدِمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ

شيءٍ قَدِيرٌ۔ (حوالہ نمبر: 24)

Transliteration Rabbi-ghfir-li Khati 'ati wa jahli wa israfi fi `Amri kullihi, wa ma anta a'lamu bihi minni. Allaahumma ighfirli khatayaya wa 'amdi, wa jahli wa jiddi, wa kullu dhalika'indi. Allaahumma ighrifli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu. Anta-l-muqaddimu wa anta-l-mu'akh-

khiru, wa anta 'ala kulli shai'in qadir'.

”میرے رب! میری خطا، میری نادانی اور تمام معاملات میں میرے حد سے تجاوز کرنے میں میری مغفرت فرما اور وہ گناہ بھی جن کو تو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اے اللہ! میری مغفرت کر، میری خطاؤں میں، میرے بالا ارادہ اور بلا ارادہ کاموں میں اور میرے ہنسی مزاح کے کاموں میں اور یہ سب میری ہی طرف سے ہیں۔ اے اللہ! میری مغفرت کر ان کاموں میں جو میں کر چکا ہوں اور انہیں جو کروں گا اور جنہیں میں نے چھپایا اور جنہیں میں نے ظاہر کیا ہے، تو سب سے پہلے ہے اور تو ہی سب سے بعد میں ہے اور تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔“

Tajama Mere Rabb ! Meri khata ,meri nadani aur tamaam maamlat mein mere hadd se tajawuz karne mein meri maghfirat farma aur wo gunah bhi jin ko tu mujh se zyada janne waala hai,aye Allaah! Meri maghfirat kar,Meri khataoun mein,meri bil irada aur bila irada kaamo mein aur mere hanshi mazaq ke kaamo mein aur ye sab Meri hi taraf se hain, Aye Allaah ! Meri maghfirat kar in kamo mein jo kar chuka hun aur inhein jo karunga aur jinhein maine chupaya aur jinhein maine zaahir kiya hai,tu sab se pahle hai tu hi sab se baad mein hai aur tu har cheez par khudrat rakhne waala hai”.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي، وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي

(حوالہ نمبر: 25)

Transliteration Allāhummaghfirī dhanbī, wa wassi lī fī dārī, wa bārik lī fī rizqī.

”اے اللہ! میرے گناہ بخش دے اور میرے گھر میں کشاادگی دے، اور میرے رزق میں برکت دے“

Tarjama Aye Allaah! Mere gunah bakhsh de aur mere ghar mein kushaadgi de, aur mere rizq mein barkat de".

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَخَطَايَايَ كُلَّهَا، اللَّهُمَّ انْعِشْنِي وَاجْبُرْنِي،

وَاهْدِنِي لِمَا لِي مِنَ الصَّالِحِ الْأَعْمَالِ وَالْأَخْلَاقِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَهْدِي لِصَالِحِهَا وَلَا

يَصْرِفُ سَيِّئِهَا إِلَّا أَنْتَ) (حوالہ نمبر: 26)

Transliteration Allaahummaghfir li dhunoobi wa khataayaaya kullaha. Allaahumma an'ishni wajburni, wahdini li saalihil a'maal wal akhlaaq, fa innahu la yahdi li saalihiha wa la yasrifu sayyi'aha illa anta.

”اے اللہ! میرے تمام گناہوں اور خطاؤں کو بخش دے۔“

اے اللہ! ہر حال میں مجھ کو سہارا عطا فرما، میری ٹوٹی حالت سنوار دے، اور مجھے نیک اعمال اور اچھے اخلاق کی توفیق دے، کیونکہ ان کی ہدایت صرف تو ہی دے سکتا ہے، اور صرف تو ہی ان کی برائی دور کر سکتا ہے۔"

Tarjama aye Allaah mere tamaam gunahon aur khataon ko bakhsh de ,Aye Allaah! Har haal mein mujhko sahara ata farma,meri tooti haalat sanwaar de,aur mujhe nek amal aur ache akhlaaq ki taufeeq de, kyunke inki hidayat sirf tu hi de sakta hai ,aur sirf tu hi inki burai dur karsakta hai

27

اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعْصِيكَ،
وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تَبَلَّغْنَا بِهِ جَنَّتِكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا يُهَوِّنُ عَلَيْنَا
مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا، وَمَتَّعْنَا بِأَسْبَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّاتِنَا مَا
أَحْيَيْتَنَا، واجعله الوارث مِنَّا، واجعل ثأرنا على مَنْ ظلمنا،
وانصُرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل
الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنا، ولا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، ولا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لا

(حوالہ نمبر: 27)

Transliteration Allāhumma-qsim lanā min khashyatika mā yaḥūlu, bainanā wa baina mā āsīka wa min ṭā`atika mā tuballighuna bihī jannatak, wa minal-yaqīni mā tuhawwinu bihī `alainā muṣībatid-dunyā, wa matti`na bi-asmā`inā wa abṣārina wa quwwatina mā aḥyaytanā, waj`alḥul-wāriṭha minnā, waj`alṭharanā `alā man Zalamanā, wanṣurna `alā man `ādānā, wa lā taj`al muṣībatanā fī dīninā, wa lā taj`alid-dunyā akbara hamminā wa lā mablagha `ilminā, wa lā tusalliṭ`alainā man lā yarḥamunā” .

ترجمہ "اے اللہ! ہمارے درمیان تو اپنا اتنا خوف بانٹ دے جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے، اور ہمارے درمیان اپنی اطاعت و فرماں برداری کا اتنا جذبہ پھیلا دے جو ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے، اور ہمیں اتنا یقین دیدے جس کے سہارے دنیا کی مصیبتیں ہیچ اور آسان ہو جائیں، اور جب تک تو زندہ رکھ ہمیں اپنے کانوں، اپنی آنکھوں اور اپنی قوتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دیتا رہ، اور ان سب کو (ہماری موت تک) باقی رکھ، اور ہمارا قصاص اور ہمارا بدلہ ان سے لے جو ہم پر ظلم کرے، اور جو ہم سے دشمنی کرے اس کے مقابل میں ہماری مدد فرما، اور دنیا کو ہمارا برا مقصد نہ بنا دے، اور نہ ہمارے علم کی انتہا بنا (کہ ہمارا سارا سیکھنا سکھانا صرف دنیا کی خاطر ہو) اور ہم پر کسی ایسے شخص کو مسلط نہ کر جو ہم پر رحم نہ کرے"۔

Aye Allaah! Hamaray darmiyan tu apna itna khauf baant de jo hamare gunahon ke darmiyan haael hojaye, aur hamare darmiyan apni ita'at ata farma burdbari ka itna jazba phailade jo hamein teri jannat tak pohuncha de, aur hamein utna yaqeen dede jiske sahare duniya ki musibatein heach aur asaan hojaein, aur jab tak zindagi rakh hamein apne kaano, apni ankhon aur apni quwwaton se faeda uthane ki taufeeq deta rah, aur in sabko (hamari maut tak) bakhi rakh, aur hamara Qisaas aur badla inse le jo ham par zulm kare, aur jo ham se dushmani kare uske muqabil mein hamari madad farma, aur dunya ko hamara bada maqsad na bana de, aur na hamare ilm ki inteza bana (ke hamara saara seekhna seekhana sirf dunya ki khatir ho) aur ham par kisi aese shakhs ko musallat na kar jo ham par reham na karein.

اللَّهُمَّ أَمْتَعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي حَتَّى تَجْعَلَهُمَا الْوَارِثَ مِنِّي،
 وَعَافِنِي فِي دِينِي وَفِي جَسَدِي، وَأَنْصُرْنِي مِمَّنْ ظَلَمْنِي حَتَّى تُرِينِي
 فِيهِ ثَأْرِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَسَلْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ،
 وَالْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، وَخَلَّيْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، لَا مَدْجًا وَلَا مَنَجِي

مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، وَبِكَتَابِكَ الَّذِي

أَنْزَلْتَ) (حوالہ نمبر: 28)

﴿Transliteration﴾ Allaahumma amti'ni bisam'i wa basari hatta taj'alahumal waaritha minni, wa 'aafini fi deeni wa fi jasadi, wansurni mimman zalamani hatta tureeyani feehi tha'ri. Allaahumma inni aslamtu nafsi ilayk, wa fawwadtu amri ilayk, wa alja tu zahri ilayk, wa khallaytu wajhi ilayk. La malja a wa la manjaa minka illa ilayk. Aamantu birasoolikal ladhi arsalt, wa bikitaabikal ladhi anzalt.

﴿ترجمہ﴾ "اے اللہ! میرے کان اور میری آنکھ کو اتنا لطف اور فائدہ عطا فرما کہ یہ دونوں میرے ساتھ باقی رہیں یہاں تک کہ تو انہیں میرا وارث بنا دے۔ اے اللہ! میرے دین اور میرے جسم میں مجھے عافیت عطا فرما۔ اے اللہ! جو شخص میرے اوپر ظلم کرے، اس کے مقابلے میں میری مدد فرما، یہاں تک کہ تو مجھے اس پر میرا بدلہ دکھا دے۔ اے اللہ! میں نے اپنی جان کو تیرے سپرد کر دیا، اپنے تمام امور کو تیرے حوالے کر دیا، اپنی پیٹھ تجھ پر ٹکادی اور اپنا چہرہ تیرے حضور جھکا دیا۔ تیرے سوا کوئی پناہ اور جائے امان نہیں۔ میں تیرے اس رسول پر ایمان لایا جسے تو نے بھیجا، اور تیرے اس کتاب پر ایمان لایا جسے تو نے نازل فرمایا۔"

Sye Allaah! Mere kaan aur meri aankh ko itna lutf aur fayeda ata farma ke yeh dono mere saath bakhi rahein yahan tak ke tu inhein mera waris bana de, Aye Allaah! Mera deen aur mere jism mein mujhe afiyat ata farma, Aye Allaah! Jo shakhs mere oopar zulm kare, uske muqable mein meri madad farma, yaha tak ke tu mujhe us par mera badla dikha de, Aye Allaah! Maine apni jaan ko tere supurd kardiya, apne tamaam umoor ko tere hawale kardiya, apni peeth tujh par tika di aur apna chehra tere huzoor jhukadiya, tere siwa koi panah aur jaae amaan nahi, mai tere Rasool par eemaan laaya jese tune bheja, aur teri us kitaab par eemaan laya jise tune nazil farmaya.

اللَّهُمَّ أَنْتَ خَلَقْتَ نَفْسِي، وَأَنْتَ تَوْفَاها، لَكَ مَبَاتُهَا وَمَحْيَاها، إِنْ أَحْيَيْتَهَا فَاَحْفَظْها، وَإِنْ أَمَتَّها فَاغْفِرْ لها، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ

(العافية) (حواله نمبر: 29)

Allaahumma anta khalaqta nafsi, wa anta tawaffaha. Laka mamaatuha wa mahyaaha. In ahyaytaha fahfazha, wa in amattaha faghfir laha. Allaahumma inni as'alukal 'aafiyah.

اے اللہ! میری جان کو تو نے پیدا کیا اور تو ہی اس کو موت

دے گا، اس جان کی موت بھی اور زندگی بھی تیرے ہی لیے ہے، اگر تو اس کو زندہ رکھے تو اس کی حفاظت فرما اور اگر تو اس کو موت دے تو اس کی مغفرت کرنا، اے اللہ! میں تجھ سے عافیت مانگتا ہوں۔"

Tarjama "Aye Allaah! Meri jaan ko tune paida kiya aur tuhi isko maut dega, is jaan ki maut bhi aur zindagi bhi tere hi liye hai, agar tu isko zinda rakhe tu iski hifazat farma aur agar tu isko maut de to iski maghfirat karna, Aye Allaah! Mai tujh se afiyat mangta hun"

30

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعِقَّةَ وَالْعَافِيَةَ فِي دُنْيَايَ وَدِينِي وَأَهْلِي وَمَالِي،
اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَتِي وَأَمِنْ رَوْعَتِي، واحفظني من بين يدي ومن
خلفي، وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذُ بك أن أُغتَالَ

(من تحتي) (حوالہ نمبر: 30)

Transliteration Allaahumma inni as'alukal-'afwa wal-'afiyah fid-dunya wal-akhirah. Allaahumma inni as'alukal-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allaahum-mastur 'awrati, wa amin raw'ati wahfazni min bayni yadayya, wa min khalfi, wa 'an yamini wa 'an shimali, wa min fawqi, wa 'audhu

bika an ughtala min tahti-

﴿ترجمہ﴾ "اے اللہ! میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عفو اور عافیت کا طالب ہوں، اے اللہ! میں تجھ سے اپنے دین و دنیا اور اپنے اہل و مال میں معافی اور عافیت کا طالب ہوں، اے اللہ! میرے عیوب چھپا دے، میرے دل کو مامون کر دے، اور میرے آگے پیچھے، دائیں بائیں، اور اوپر سے میری حفاظت فرما، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں نیچے سے ہلاک کئے جانے سے۔"

﴿Tajama﴾ Aye Allaah! Mai tujh se duniya aur akhirat mein afuu aur afiyat ka talib hun, aye Allaah! Mai tujh se apne deen o duniya aur apne ahl o maal mein maafi aur afiyat ka talib hun, aye Allaah! Mere uyoob chupa de, mere dil ko mamoon karde, aur mere aage pichey, dayein bayein, aur oopar se meri hifazat farma, aur mai teri panah chahta hun niche se halaak kiye jaane se"

31

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَىٰ وَالتَّقَىٰ، وَالْعَفَاةَ وَالْغِنَىٰ

(حوالہ نمبر: 31)

﴿Transliteration﴾ Allaahumma inni as' alukal huda wat tuqa, wal 'afaafa wal ghina.

﴿ترجمہ﴾ "اے اللہ! میں تجھ سے ہدایت، تقویٰ، پاک دامنی، اور (دل کا) غنما مانگتا ہوں۔"

﴿ Tarjama ﴾ Aye Allaah! Mai tujh se hidayat ,taqwa ,paak damani,aur (dil ka) ghina maangta hun.

32

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا
لَمْ أَعْلَمْ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ،
وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَازَبَهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ
الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا
قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ
لِي خَيْرًا (حواله نمبر: 32)

﴿ Transliteration ﴾ Allaahumma inni as'aluka minal-khayri kullihi, 'ajilihi wa ajilihi, ma 'alimtu minhu wa ma la a'lam. Wa a'udhu bika minash-sharri kullihi, 'ajilihi wa ajilihi, ma 'alimtu minhu wa ma la a'lam. Allaahumma inni as'aluka min khayri ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka, wa a'udhu bika min sharri ma 'adha bihi 'abduka wa nabiyyuka. Allaahumma inni as'alukal-jannatah wa ma qarrab ilayha min qawlin aw 'amalin, wa a'udhu bika minan-nari wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amalin, wa as'aluka an taj'al

kulla qada'in qadaytahuli khayran.

﴿ترجمہ﴾ "اے اللہ! میں تجھ سے دنیا و آخرت کی ساری بھلائی کی دعا مانگتا ہوں جو مجھ کو معلوم ہے اور جو نہیں معلوم، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں دنیا اور آخرت کی تمام برائیوں سے جو مجھ کو معلوم ہیں اور جو معلوم نہیں، اے اللہ! میں تجھ سے اس بھلائی کا طالب ہوں جو تیرے بندے اور تیرے نبی نے طلب کی ہے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس برائی سے جس سے تیرے بندے اور تیرے نبی نے پناہ چاہی ہے، اے اللہ! میں تجھ سے جنت کا طالب ہوں اور اس قول و عمل کا بھی جو جنت سے قریب کر دے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم سے اور اس قول و عمل سے جو جہنم سے قریب کر دے، اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ ہر وہ حکم جس کا تو نے میرے لیے فیصلہ کیا ہے بہتر کر دے۔"

﴿Tajama﴾ Aye Allaah! Mai tujh se duniya o akhirat ki saari bhalai ki dua maangta hun jo mujh ko maloom hai aur jo nahi maloom ,aur mai teri panah chahta hun duniya aur akhirat ki tamaam burayon se jo mujh ko maloom hai aur jo maloom nahi ,Aye Allaah mai tujh se us bhalai ka talib hun jo tere bande aur tere Nabi ne talab ki hai,aur mai teri panah chahta hun us burai se jis se tere bande aur tere Nabi ne panah chahi hai,aye Allaah! Mai tujh se jannat ka talib hun aur us qawl o

amal ka bhi jo jannat se khareeb karde,aur mai teri panah chahta hun jahannam se aur us qawl o amal se jo jahannam se khareeb karde,aur tujh se sawal karta hun ke har wo hukm jiska tu ne mere liye faisla kardiya hai bahtar karde—"

33

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ؛ فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُهَا إِلَّا أَنْتَ

(حوالہ نمبر: 33)

Transliteration Allaahumma inni as' aluka min fadlika wa rahmatik, fa innahu la yamlikuha illa anta.

"اے اللہ! میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، کیونکہ ان کا مالک تیرے سوا کوئی نہیں۔" چنانچہ کچھ دیر بعد آپ ﷺ کو بھنی ہوئی بکری ہدیہ کے طور پر پیش کی گئی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: "یہ اللہ کا فضل ہے، اور ہم رحمت کے منتظر رہتے ہیں۔"

Tarjama Aye Allaah ! Mai tujh se tere fazal aur teri rahmat ka sawal karta hun,kyunke inka malik tere siwa koi nahi."

34

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخِطِكَ، وَبِعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَيَّ

نَفْسِكَ). (حوالہ نمبر: 34)

﴿Transliteration﴾ Allaahumma inni a'oozu biridaaka min sakhatik, wa bimu'aafaatika min 'uqoobatik, wa a'oozu bika minka. La uhsi thanaa'an 'alayk. Anta kama athnayta 'ala nafsik.

﴿ترجمہ﴾ "اے میرے اللہ! پناہ مانگتا ہوں تیری رضامندی کی تیرے غصہ سے، تیری معافی کی تیری سزا سے، اور میں پناہ مانگتا ہوں تیری تجھ سے، مجھے تیری تعریف کرنے کی طاقت نہیں تو ایسا ہی ہے جیسی تو نے خود اپنی تعریف کی۔"

﴿Tarjama﴾ "Ay mere ALLAAH! panah mangta hun teri raza Mandi ki tere gusse se, teri maafi Teri saza se aur main panah mangta hun teri tujh se mujhe teri tareef karne ki taqat nahi tu Aisa hi hai jaisi tu ne khud apni tareef ki"

35

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُونِ وَالْجُدَامِ، وَمِنْ سَيِّئِ

الْأَسْقَامِ (حوالہ نمبر: 35)

﴿Transliteration﴾ Allaahumma inni a'oozu bika minal barasi wal junooni wal judhaami, wa min sayyi'il asqaam.

﴿ترجمہ﴾ "اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں برص، دیوانگی، کوڑھ اور

تمام بری بیماریوں سے۔"

Tarjama ye ALLAAH! mai teri panah mangta hun bars , deewangi ,kodh aur tamaam buri bimarion se

36

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّي وَالْهَدْمِ وَالْغَرَقِ وَالْحَرَقِ، وَأَعُوذُ
بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي
سَبِيلِكَ مُدْبِرًا، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا (حوالہ نمبر: 36)

Transliteration Allaahumma inni a'udhu bika minat-taraddi, wal-hadmi, wal-gharaqi, wal-hariqi, wa a'udhu bika, an yatakhabbatanish-shaitanu 'indal-mawti, wa a'udhu bika an amuta fi sabilika mudbيران, wa a'udhu bika an amuta ladigha.

تہجد "اے اللہ! میں اونچائی سے گر پڑنے، دیوار کے نیچے دب جانے، ڈوب جانے، اور جل جانے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ موت کے وقت شیطان مجھے بہکا دے، اور اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں تیرے راستہ یعنی جہاد میں پیٹھ دکھا کر بھاگتے ہوئے مروں، اور اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ (کسی موذی کے) ڈس لینے کی وجہ سے مروں۔"

﴿ Tarjama ﴾ Aye ALLAAH! Main unchai se gir padne , diwaar se niche dab Jaane , doob jaane ,aur jal Jaane se teri panah mangta hun ,aur is baat se teri panah chahta hun ke maut ke waqt shaitaan mujhe bahkaae, aur is baat se teri panah mangta hun ke main tere raaste yaani jihad me peeth dikha kar bhagte huwe maroon ,aur is baat se bhi teri panah mangta hun ke (kisi muzi ke) das lene ki wajah se maroon”

37

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ؛ فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيعُ ، وَأَعُوذُ بِكَ
مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ۔ (حوالہ نمبر: 37)

﴿ Transliteration ﴾ Allaahumma inni a'oozu bika minal joo', fa innahu bi'sad dajee', wa a'oozu bika minal khiyana, fa innaha bi'satil bitaanah.

﴿ ترجمہ ﴾ "اے اللہ! میں بھوک سے تیری پناہ مانگتا ہوں وہ بہت بری ساتھی ہے، میں خیانت سے تیری پناہ مانگتا ہوں وہ بہت بری خفیہ خصلت ہے۔"

﴿ Tarjama ﴾ "Aye ALLAAH main bhook se teri panah mangta hun wo bahot buri saathi hai ,mai khiyant se teri panah mangta hun wo bahot buri khufya khaslat hai ."

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ
 وَالْهَرَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ،
 وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ) (حوالہ نمبر: 38)

Transliteration Allaahumma inni a'oozu bika minal 'ajzi
 wal kasal, wal jubni wal bukhl, wal haram, wa a'oozu
 bika min 'azaabil qabr, wa a'oozu bika min 'azaabin
 naar, wa a'oozu bika min fitnatil mahya wal mamaat.

ترجمہ "اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں عاجزی سے، سستی سے،
 بزدلی سے اور بہت زیادہ بڑھاپے سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں عذاب قبر
 اور جہنم کے عذاب سے اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں زندگی اور موت کی
 آزمائشوں سے۔"

Tarjama "Aye ALLAAH main teri panah mangta
 hun aajizi se, susti se , buzdili se ,aur bahut zyada
 budhape se aur main teri panah mangta hun zindagi
 aur maut ki azmaishon se"

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ،

وَالْهَرَمِ، وَالْقَسْوَةِ، وَالْغَفْلَةِ، وَالْعَيْلَةِ، وَالذَّلَّةَ، وَالْمَسْكَنَةَ. وَأَعُوذُ
بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْكَفْرِ، وَالْفُسُوقِ وَالشَّقَاقِ وَالنِّفَاقِ، وَالسُّبْحَةِ
وَالرِّيَاءِ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الصَّمَمِ، وَالْبَكْمِ، وَالْجُنُونِ، وَالْجَذَامِ،

وَالْبَرَصِ، وَسَيِّئِ الْأَسْقَامِ) (حوالہ نمبر: 39)

Transliteration Allaahumma inni a'oozu bika minal 'ajzi wal kasal, wal jubni wal bukhl, wal haram, wal qaswah, wal ghaflah, wal 'aylah, wadh dhillah, wal maskanah. Wa a'oozu bika minal faqr wal kufr, wal fusuq, wash shiqaaq, wan nifaaq, was sum'ah war riyaah. Wa a'oozu bika minas samam, wal bakam, wal junoon, wal judhaam, wal baras, wa sayyi'il asqaam.

﴿ ترجمہ ﴾ "اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں عاجز اور سست ہونے سے اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں سخت دلی اور غفلت سے، تنگدستی، ذلت و خواری، اور محتاجی سے۔ اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں فسق و فجور، اختلاف و جھگڑا، نفاق، نام و نمود اور ریاکاری سے۔ اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں بہرے پن، گونگے پن، جنون، برص، جذام اور ہر برے مرض سے۔"

Tarjama "Aye ALLAAH! Main teri panah chahta hun aajiz aur sust hone se aur mai teri panah chahta hun sakht dili aur ghaflat se ,tangdasti ,zillat o khuwari

,aur mohtaji se .aur main teri panah chahta hun fisq o fujur, Ikhtelaf o jhagdalu pan ,nifaq ,naam o namood aur riyakari se" aur mai teri panah chahta hun bahre pan , Gunge pan ,junun ,bars ,juzam aur har bure marz se".

40

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ،
وَالهَرَمِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَفِتْنَةِ الدَّجَالِ، اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي
تَقْوَاهَا، وَزَكَّاهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيِّهَا وَمَوْلَاهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي
أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا

تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا) (حوالہ نمبر: 40)

Transliteration Allaahumma inni a'oozu bika minal 'ajzi wal kasal, wal jubni wal bukhl, wal haram, wa 'azaabil qabr, wa fitnatid dajjal. Allaahumma aati nafsi taqwaaha, wa zakkiha anta khayru man zakkaaha. Anta waliyyuha wa mawlaaha. Allaahumma inni a'oozu bika min 'ilmin la yanfa', wa min qalbin la yakhsha', wa min nafsina la tashba', wa min da watin la yustajaabu laha.

”اے اللہ! میں تجھ سے تیری پناہ میں آتا ہوں، عاجز ہو جانے،

سستی، بزدلی، بخل، سخت بڑھاپے اور قبر کے عذاب سے۔ اے اللہ! میرے دل کو تقویٰ دے، اس کو پاکیزہ کر دے، تو ہی اس (دل) کو سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کا رکھوالا اور اس کا مددگار ہے۔ اے اللہ! میں تجھ سے ایسے علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو کوئی فائدہ نہ دے اور ایسے دل سے جو (تیرے آگے) جھک کر مطمئن نہ ہوتا ہو اور ایسے من سے جو سیر نہ ہو اور ایسی دعا سے جسے شرف قبولیت نصیب نہ ہو۔"

Tarjama Aye ALLAAH! Mai tujhse teri panah me aata hun aajiz ho jane , susti buzdili , bukhal, sakht budhaape aur qabar ke azab se .Aye ALLAAH! Mere dil ko taqwa de, is ko pakiza kar de ,tu hi is dil ko sab se bahtar paak karne waala hai , tu hi is ka rakhwaala aur is ka madadgar hai . Aye ALLAAH! mai tujhse aise ilm se teri panah mangta hun jo koi fayda na de aur aise dil se jo (tere aage) jhuk kar mutmain na hota ho aur aise man se jo sair na ho aur aisi dua se jise sharfe qabuliyet naseeb na ho".

41

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذَّلَّةِ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ
أُظْلِمَ أَوْ أَظْلَمَ (حوالہ نمبر: 41)

Transliteration Allaahumma inni a'oozu bika minal faqr

wal qillah wadh dhillah. Wa a'oozu bika min an azlima aw uzlam.

تہمت "اے اللہ! میں فقر، قلت مال اور ذلت سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں کسی پر ظلم کروں یا کوئی مجھ پر ظلم کرے۔"

Tarjama "Aye ALLAAH mai faqr, qillate maal aur zillat se teri panah mangta hun aur is baat se teri panah mangta hun ke main kisi par zulm Karu ya koi mujh par zulm kare."

42

(اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ، وَعَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغَنَى. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ. اللَّهُمَّ اغْسِلْ عَنِّي خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ

کما باعدت بین المشرق والمغرب) (حوالہ نمبر: 42)

Transliteration Allaahumma inni a'oozu bika minal kasal wal haram wal ma'tham wal maghram, wa min fitnatil

qabr, wa 'azaabil qabr, wa min fitnatinar, wa 'azaabin naar, wa min sharri fitnatil ghina. Wa a'oozu bika min fitnatil masehid dajjal. Allaahummaghsil 'anni khataayaaya bil maa' i wath thalji wal barad, wa naqqi qalbi minal khataaya kama yunaqqath thawbul abyadu minad danas, wa baa'id bayni wa bayna khataayaaya kama baa'adta baynal mashriqi wal maghrib.

ترجمہ " اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی سے، بہت زیادہ بڑھاپے سے، گناہ سے، قرض سے اور قبر کی آزمائش سے اور قبر کے عذاب سے اور دوزخ کی آزمائش سے اور دوزخ کے عذاب سے اور مال داری کی آزمائش سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں محتاجی کی آزمائش سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں مسیح و جال کی آزمائش سے۔ اے اللہ! مجھ سے میرے گناہوں کو برف اور اولے کے پانی سے دھو دے اور میرے دل کو خطاؤں سے اس طرح پاک و صاف کر دے جس طرح تو نے سفید کپڑے کو میل سے پاک کر دیا اور مجھ میں اور میرے گناہوں میں اتنی دوری کر دے جتنی مشرق اور مغرب میں دوری ہے۔"

ترجمہ Aye ALLAAH! Main teri panah mangta hun susti se, bahut zyada budhape se, gunah se, qarz se, qabr ki aazmaish se aur qabr ke azab se aur dozakh ki aazmaish se aur dozakh ke azab se aur maldari ki

aazmaish se aur teri panah mangta hun mohtaji ki aazmaish se aur teri panah mangta hun Masih Dajjal ki aazmaish se. Aye ALLAAH! Mujh se mere gunahon ko barf aur aule ke pani se dho de aur mere dil ko khataon se is tarah paak wa saaf karde jis tarah tu ne safed Kapde ko mael se paak saaf kar Diya aur mujh me aur mere gunahon me itni duri karde jitni mashriq aur magrib me duri hai.

43

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ

وَالْجُبْنِ، وَضَلَعِ الدِّينِ، وَغَلْبَةِ الرِّجَالِ - (حوالہ نمبر: 43)

Transliteration Allaahumma inni a'oozu bika minal hammi wal hazan, wal 'ajzi wal kasal, wal bukhl wal jubn, wa dala'id dayn, wa ghalabatir rijaal.

”اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم سے، رنج سے، عجز سے، سستی سے، بخل سے، بزدلی سے، قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کے غلبے سے۔“

Tarjama "Aye ALLAAH! Main teri panah chahta hun gham se ,ranj se ,Ajz se ,susti se ,bukhl se ,buzdili se,qarz ke bojh se aur logon ke ghalbe se"

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَارِ السَّوِّءِ فِي دَارِ الْمُقَامَةِ، فَإِنَّ جَارَ

الْبَادِيَةِ يَتَحَوَّلُ). (حوالہ نمبر: 44)

Transliteration Allaahumma inni a'oozu bika min jaaris soo'i fi daaril muqaamah, fa inna jaaral baadiyati yatahawwal.

”مستقل رہنے کی جگہ میں برے اور خراب پڑوسی سے اللہ کی پناہ مانگو، اس لیے کہ صحراء کا پڑوسی تو تم سے جدا ہی ہو جائے گا۔“

Tarjama “Mustaqil rehne ki jagah me bure aur kharab padosi se Allaah ki panaah maangta hu, isliye ke shaher ka padosi to juda hi ho jayega.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجْأَةِ

نِقْمَتِكَ، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ) (حوالہ نمبر: 45)

Transliteration Allaahumma inni a'oozu bika min zawaali ni'matik, wa tahawwuli aafiyatik, wa faja'ati niqmatik, wa jamee'i sakhatik.

”اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں تیری نعمت کے زوال سے، تیری عافیت کے ہٹ جانے سے، تیری ناگہانی سزا سے اور تیری ہر طرح کی

ناراضی سے۔"

﴿Tarjama﴾ Aye Allaah! main teri panaah chahta hun teri nemat ke zawal se, teri aafiyat ke hat jaane se, teri naagahani saza se aur teri har tarah ki narazgi se.

46

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَعْيِي، وَمِنْ شَرِّ بَصَرِي، وَمِنْ شَرِّ

لِسَانِي، وَمِنْ شَرِّ قَلْبِي، وَمِنْ شَرِّ مَنِيَّتِي). (حوالہ نمبر: 46)

﴿Transliteration﴾ Allaahumma inni a'oozu bika min sharri sam'i, wa min sharri basari, wa min sharri lisani, wa min sharri qalbi, wa min sharri maniyyati.

﴿ترجمہ﴾ "اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں اپنے کان کی برائی، نظر کی برائی، زبان کی برائی، دل کی برائی اور اپنی منی کی برائی سے۔"

﴿Tarjama﴾ Aye Allaah ! Mai teri panaah mangta hun apne Kaan ki burai, Nazar ki burai, Zuban ki burai, Dil ki burayi aur apne Mani ki burai se.

47

اللَّهُمَّ إِنَّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ، وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ۔

(حوالہ نمبر: 47)

﴿Transliteration﴾ Allaahumma inni a'oozu bika min sharri ma 'amiltu, wa min sharri ma lam a'mal.

﴿ترجمہ﴾ "اے اللہ! جو میں نے کیا اس کے شر سے اور جو میں نے نہیں کیا، اس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔"

﴿Tajama﴾ Aye Allaah! Jo maine kiya iske sharr se aur jo maine nahi kiya iske sharr se teri panah me aata hun".

48

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ،
وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ

الْمَسِيحِ الدَّجَالِ). (حوالہ نمبر: 48)

﴿Transliteration﴾ Allaahumma inni a udhu bika min adhabil-qabri wa a 'udhu bika min 'adhabin-nar, wa a 'udhu bika min fitnatil-mahya wal-mamat, wa audhu bika min fitnatil-masihid-dajjal

﴿ترجمہ﴾ "اے اللہ! میں عذابِ قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، جہنم کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں، زندگی اور موت کی آزمائش سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور مسیحِ دجال کی آزمائش سے (بھی) تیری پناہ مانگتا ہوں۔"

﴿Tajama﴾ Aye Allaah! Main qabar ke azaab se teri panaah maangta hu, aur jahannam ke azaab se bhi, zindagi aur maut ki aazmaish se bhi Teri panaah maangta hoon, aur Maseeh Dajjal ki aazmaish se bhi

Teri panaah maangta hoon.

49

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَعَمَلٍ لَا يُرْفَعُ، وَدُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ (حوالہ نمبر: 49)

Transliteration Allaahumma inni a'oozu bika min 'ilmin la yanfa', wa 'amalin la yurfa', wa du'a'in la yusma.

تہا "اے اللہ! میں ایسے علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو مفید اور نفع بخش نہ ہو، ایسے عمل سے جس کو قبولیت کے لئے آسمانوں کی طرف اٹھایا نہ جائے اور ایسی دعاء سے جو قبول نہ ہو۔

Tarjama Aye Allaah, "Main aise ilm se Teri panaah maangta hoon jo mufeed aur nafa-bakhsh na ho, aur aise amal se jise qabooliyat ke liye aasmano ki taraf uthaya na jaye aur aisi dua se jo qabool na ho".

50

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ العَدُوِّ وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ (حوالہ نمبر: 50)

Transliteration "Allaahumma inni a'udhu bika min ghalabatid-dain, wa ghalabatil-'aduwwi, wa shamatatil-a'da."

﴿ترجمہ﴾ "اے اللہ! میں قرض کے غلبے، دشمن کے غلبے اور مصیبت میں دشمنوں کی خوشی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔"

﴿Tarjama﴾ "Aye Allaah! Main qarz ke ghalbe, dushman ke ghalbe, aur museebat ke waqt dushmanon ki khushi se teri panaah chahta hoon".

51

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ دَعَاءٍ لَا يُسْمَعُ، وَمِنْ
نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ. أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَوْلِ الْأَرْبَعِ
(حوالہ نمبر: 51)

﴿Transliteration﴾ Allāhumma innī a`ūdhu bika min qalbin lā yakhshā`u, wa min du`ā`in lā yusma`u, wa min nafsin lā tashba`u, wa min `ilmin lā yanfa`u, a`ūdhu bika min hā`ulā`il-arba".

﴿ترجمہ﴾ "اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے دل سے جو ڈرتا نہ ہو (یعنی جس میں خوف الہی نہ ہو)، اور ایسی دعا سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں جو سنی نہ جائے، اور اس نفس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں جو سیر نہ ہو، اور ایسے علم سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں جو فائدہ نہ پہنچائے، اے اللہ! میں ان چاروں چیزوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔"

﴿Tarjama﴾ Aye Allaah! Main Teri panaah maangta

hoon aise dil se jo nahi darta yani jisme khauf-e-Ilahi na ho),aur aisi dua se jo suni na jaye,aur aise nafs se jo sair na ho,aur aise ilm se jo faida na pahunchae. Aye Allaah! Main in chaaron cheezon se Teri panaah chahta hoon”.

52

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ

(والأدواء) (حوالہ نمبر: 52)

﴿Transliteration﴾ Allāhumma innī a`ūdhu bika min munkarātil-akhlāqi wal-a`māli wal-ahwā.

﴿ترجمہ﴾ "اے اللہ! میں تجھ سے بری عادتوں، برے کاموں اور بری خواہشوں سے پناہ مانگتا ہوں۔"

﴿Tarjama﴾ "Aye Allaah! Main buri aadaton se,bure a`maal se,aur buri khwahishon se Teri panaah maangta hoon”.

53

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ يَوْمِ السُّوءِ وَمِنْ لَيْلَةِ السُّوءِ، وَمِنْ سَاعَةِ

السُّوءِ، وَمِنْ صَاحِبِ السُّوءِ، وَمِنْ جَارِ السُّوءِ، فِي دَارِ الْمَقَامَةِ).

(حوالہ نمبر: 53)

﴿Transliteration﴾ Allaahumma inni a`oozu bika min yawmis

soo', wa min laylatis soo', wa min saa'atis soo', wa min sahibis soo', wa min jaaris soo', fi daaril muqaamah.

تہجہ " اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں برے دن سے، برے رات سے، برے وقت سے، برے ساتھی سے، اور برے ہمسایہ سے، اس جگہ جہاں میں ہمیشہ رہوں گا۔ "

Tarjama " Aye Allaah! Main Teri panaah chahta hoon bure din se, bure raat se, bure waqt se, bure saathi se, aur bure hamsae se, us jagah jahan main hamesha rahunga "

54

اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبِ، وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِي، اللَّهُمَّ وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْإِخْلَاصِ فِي الرِّضَا وَالغَضَبِ، وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالغِنَى، وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ، وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بِالْقَضَاءِ، وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ، وَالشُّوقَ إِلَى لِقَائِكَ، فِي غَيْرِ ضَرَاءٍ مُضِرَّةٍ، وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ. اللَّهُمَّ

زَيْنًا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةَ مَهْتَدِينَ). (حوالہ نمبر: 54)

Transliteration Allāhumma bi `ilmikal-ghaiba wa qudratika `alal-khalqi ahyinī mā `alimtal-ḥayāta khairan lī, wa tawaffanī idhā `alimtal-wafāta khairan lī. Allāhumma wa `as'aluka khashyataka fil-ghaibi wash-shahādati wa `as'aluka kalimatal-ḥaqqi fir-riḍā'i wal ghaḍab, wa as'alukal-qaṣḍa fil faqri wal-ghina, wa `as'aluka na`īmān lā yanfadu wa `as'aluka qurrata `ainin lā tanqāṭi`u wa as'alukar-riḍā'i ba`dal-qaḍā'i wa `as'aluka bardal `aishi ba`dal-mawti, wa `as'aluka ladhhatan-naẓari ilā wajhika wash-shawqa ilā liqā'ika fī ghairi ḍarrā'a muḍirratin wa lā fitnatin muḍillatin, Allāhumma zayyinnā bizīnatil-īmāni waj'alna hudātan muhtadīn

﴿تہذیب﴾ "اے اللہ! میں تیرے علم غیب اور تمام مخلوق پر تیری قدرت کے واسطے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک تو جانے کہ زندگی میرے لیے باعث خیر ہے، اور مجھے موت دیدے جب تو جانے کہ موت میرے لیے بہتر ہے، اے اللہ! میں غیب و حضور دونوں حالتوں میں تیری مشیت کا طلب گار ہوں، اور میں تجھ سے خوشی و ناراضگی دونوں حالتوں میں کلمہ حق کہنے کی توفیق مانگتا ہوں، اور تنگ دستی و خوشحالی دونوں میں

میانہ روی کا سوال کرتا ہوں، اور میں تجھ سے ایسی نعمت مانگتا ہوں جو ختم نہ ہو، اور میں تجھ سے ایسی آنکھوں کی ٹھنڈک کا طلبگار ہوں جو منقطع نہ ہو، اور میں تجھ سے تیری قضاء پر رضا کا سوال کرتا ہوں، اور میں تجھ سے موت کے بعد کی راحت اور آسائش کا طالب ہوں، اور میں تجھ سے تیرے دیدار کی لذت، اور تیری ملاقات کے شوق کا طالب ہوں، اور پناہ چاہتا ہوں تجھ سے اس مصیبت سے جس پر صبر نہ ہو سکے، اور ایسے فتنے سے جو گمراہ کر دے، اے اللہ! ہم کو ایمان کے زیور سے آراستہ رکھ، اور ہم کو راہ نما اور ہدایت یافتہ بنا دے۔"

Tarjama Aye Allaah! Main Tere 'ilm-e-ghaib aur tamam makhlooq par teri qudrat ke waaste se tujh se sawal karta hoon ke Tu mujhe us waqt tak zinda rakh jab tak Tu jaane ke zindagi mere liye baais e khair hai. Aur mujhe maut de jab Tu jaane ke maut mere liye behtar hai. Aye Allaah! Main ghaib o huzoo dono haalaton mein Teri mashiyyat ka talabgaar hoon. Aur Tujh se khushi aur narazgi dono haalaton me miyana ravi ka sawal karta hoon. Aur main Tujh se aisi ni mat maangta hoon jo khatm na ho. Aur main Tujh se aisi ankhon ki thandak ka talabgaar hoon jo kabhi munqate' na ho. Aur main Tujh se Teri qaza par raza ka sawal karta hoon. Aur main Tujh se maut ke baad ki raahat aur aasaish ka taalib hoon. Aur main Tujh se Tere didaar ki lazzat aur Teri mulaqat ke shauq ka

taalib hoon. Aur panaah chahta hoon tujh se us museebat se jis par sabr na ho sake, aur aise fitne se jo gumraah kar de. Aye Allaah! Hamein eemaan ke zewar se aaraasta rakh, aur hamein raahnuma aur hidayat yafta bana de” .

55

اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ مُذْهِبَ الْبَاسِ، اشفِ أَنْتَ الشَّافِي، وَلَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ، اشفِ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا. (حوالہ نمبر: 55)

Transliteration Allaahumma Rabbann naas, mudhhibal baas, ishfi antash shaafi, wa la shaafiya illa anta, ishfi shifaa'an la yughaadiru saqama.

”اے اللہ! لوگوں کے رب! تکلیف کو دور کر دینے والے! شفاء عطا فرما، تو ہی شفاء دینے والا ہے تیرے سوا کوئی شفاء دینے والا نہیں، ایسی شفاء عطا فرما کہ بیماری بالکل باقی نہ رہے۔“

Tarjama “Aye Allaah, logon ke Rab! takleef ko door kar dene waale! Shifa ata farma. Tu hi Shifa dene waala hai, Tere siwa koi shifa dene waala nahi. aisi shifa ata farma ke bimari bilkul baaqi na rahe” .

56

اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ وَمُحَمَّدٍ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ

النَّارِ). (حوالہ نمبر: 56)

﴿Transliteration﴾ Allaahumma, rabba jibra'ila, wa mika'ila wa rabba israfila wa Muhammad, a'udhu bika minan naari.

﴿ترجمہ﴾ "اے اللہ، جبرائیل (علیہ السلام) و میکائیل (علیہ السلام) و اسرافیل (علیہ السلام) اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے رب! میں جہنم کی آگ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔"

﴿Tajama﴾ Aye Allaah! Jibrayeel Mikayeel Israfeel aur Muhammad SallAllaahu Alaihi wasallam ke Rab mai Teri panah chahta hoon aag se.

57

اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائيلَ وَرَبَّ إِسْرَافيلَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَرِّ

النَّارِ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ). (حوالہ نمبر: 57)

﴿Transliteration﴾ 'Allaahumma, rabba jibra'ila, wa mika'ila wa rabba israfila, a'udhu bika min harrin-nari wa (min) 'adhabil-qabr

﴿ترجمہ﴾ "اے اللہ، جبرائیل (علیہ السلام) و میکائیل (علیہ السلام) اور اسرافیل (علیہ السلام) کے رب! میں جہنم کی آگ کی گرمی اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔"

﴿Tajama﴾ Aye Allaah Jibrayeel Alaihissalam wa Mikayeel Alaihissalam aur Israfeel Alaihissalam ke

Rab ! Mai Jahannam ki Aag ki garmi aur Qabr ke Azab se Teri panah maangta hoon.

58

اللَّهُمَّ كَمَا حَسَّنْتَ خَلْقِي فَحَسِّنْ خُلُقِي (حوالہ نمبر: 58)

Transliteration Allaahumma kama hassanta khalqi fa hassin khuluqi.

تجربہ "اے اللہ! جس طرح تو نے میری تخلیق حسین بنائی ہے،

ویسے ہی میرے اخلاق کو بھی حسین بنا دے۔

Tarjama "Aye Allaah jis tarha tu ne meri takhleeq haseen banai hai waise hi mere Akhlaaq ko bhi haseen banade.

59

اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أُنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْ تُضِلَّنِي، أَنْتَ

الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، وَالْحَيُّ وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ). (حوالہ نمبر: 59)

Transliteration Allaahumma laka aslamtu, wa bika aamantu, wa 'alayka tawakkaltu, wa ilayka anabtu, wa bika khaasamtu. Allaahumma inni a'oozu bi 'izzatika, la ilaha illa anta, an tudillani. Antal hayyul ladhi la

yamoot, wal jinnu wal insu yamootun.

﴿ترجمہ﴾ "اے اللہ! میں تیرے لیے فرمانبردار ہو گیا، تیرے ساتھ ایمان لایا، تجھ پر بھروسہ کیا، تیری طرف رجوع کیا اور تیری مدد سے (کفر کے ساتھ) مخاصمت کی۔ اے اللہ! میں اس بات سے تیری عزت کی پناہ لیتا ہوں۔۔۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ کہ تو مجھے سیدھی راہ سے ہٹا دے۔ تو ہی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے جس کو موت نہیں آسکتی اور جن و انس سب مر جائیں گے۔"

﴿Tajama﴾ Aye Allaah! Mai tere liye farmabardar hogaya tere Saath Emaan laya tujh par bharoosa kiya Teri taraf ruju kiya aur Teri madad se (kufir ke Saath) muqasamat ki. Aye Allaah! Mai is baat se Teri izzat ki panah leta hoon. Tere siwa koi mabood NAHI ke tu mujhe seedhi rah se hata de tu hi hamesha zinda rehne Waala hai jis ko maut nahi asakti aur jin o ins sab marjaenge.

60

اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
(حوالہ نمبر: 60)

﴿Transliteration﴾ Allaahumma aatina fid dunya hasanah, wa fil aakhirati hasanah, wa qina 'azaaban naar.

﴿ترجمہ﴾ "اے اللہ! ہمیں دنیا میں بھلائی («حسنہ») عطا کر اور

آخرت میں بھلائی عطا کر اور ہمیں دوزخ سے بچا۔"

Tarjama Aye Allaah! Hamein Dunya me bhi bhalai
Ata kar aur Akhirat me bhi bhalai ata kar aur hamein
dozak se bacha"

61

اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةٌ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ
الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، وَاجْعَلْ
الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ.

(حوالہ نمبر: 61)

Transliteration Allaahumma aslih li deeni alladhi huwa
'ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati feeha ma'ashi,
wa aslih li aakhirati allati feeha ma'aadi, waj'alil
hayata ziyadatan li fi kulli khayr, waj'alil mawta
raahatan li min kulli sharr.

ترجمہ "اے اللہ! میرے دین کو درست کر دے، جو میرے (دین و
دنیا کے) ہر کام کے تحفظ کا ذریعہ ہے اور میری دنیا کو درست کر دے جس میں
میری گزران ہے اور میری آخرت کو درست کر دے جس میں میرا (اپنی
منزل کی طرف) لوٹنا ہے اور میری زندگی کو میرے لیے ہر بھلائی میں اضافے
کا سبب بنادے اور میری وفات کو میرے لیے ہر شر سے راحت بنادے۔"

Tarjama "Aye Allaah! Mere Deen ko durust kar de Jo mere (Deen o duniya ke) har kaam ke tahaffuz ka zariya hai aur meri duniya ko durust kar de jis me meri guzraan hai aur meri akhirat ko durust kar de jis me mera (apni manzil ki taraf) lautna hai aur meri Zindagi Jo mere liye har bhalai me izafe ka sabab bana de aur meri wafat ko mere har shar se rahat banade.

62

اللَّهُمَّ مُصَرِّفِ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ (حوالہ نمبر: 62)

Transliteration Allaahumma musarrifal quloob, sarrif quloobana 'ala ta'atik.

”اے اللہ! اے دلوں کو پھیرنے والے! ہمارے دلوں کو اپنی

اطاعت پر پھیر دے۔“

Tarjama Aye Allaah Aye dilon ko pherne waale ! Hamare dilon ko apni Itaa't par pher de."

63

يَا مُقَلِّبِ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ (حوالہ نمبر: 63)

Transliteration Ya muqallibal quloob, thabbit qalbi 'ala deenik.

”اے دلوں کے پھیرنے والے! میرے دل کو اپنے دین پر

جمادے "

Tarjama "Aye dilon ko pherne waale! Mere dil ko Apne deen par jama de"

64

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ
مَنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ

القَبْرِ). (حوالہ نمبر: 64)

Transliteration Allaahumma inni a'oozu bika minal jubn, wa a'oozu bika minal bukhl, wa a'oozu bika min an uradda ila ardhilil umr, wa a'oozu bika min fitnatid dunya wa azaabil qabr.

”اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں بزدی سے، تیری پناہ مانگتا ہوں بخل سے، اس سے کہ ناکارہ عمر کو پہنچوں، تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا کی آزمائش سے اور قبر کے عذاب سے۔“

Tarjama Aye Allaah mai Teri panah mangta hoon buzdili se, Teri panah mangta hoon bukhl se, is se ke nakarah Umar ko pahunchun, Teri panah mangta hoon duniya ki azmaish se aur Qabr ke Azab se.

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ [السَّبْعِ] وَرَبَّ الْأَرْضِ، وَرَبَّ الْعَرْشِ
 الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنزِلَ التَّوْرَةِ
 وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ
 بِنَاصِيَتِهِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ
 فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ
 الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، أَقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ).

(حوالہ نمبر: 65)

Transliteration Allaahumma Rabbas samawatis sab, wa
 Rabbal ard, wa Rabbal 'arshil 'azeem, Rabbana wa
 Rabba kulli shay', faaliqal habbi wan nawa, wa
 munazzilat tawraati wal injeeli wal furqaan, a oozu
 ka min sharri kulli shay'in anta aakhidhun
 bi naasiyatih. Allaahumma antal awwalu fa laysa
 ba daka shay', wa antal aakhiru fa laysa ba daka shay',
 wa antaz zaahiru fa laysa fawqaka shay', wa antal
 tinu fa laysa doonaka shay'. Iqdi 'annad dayn, wa
 agnina minal faqr.

”اے اللہ! اے آسمانوں کے رب اور زمین کے رب اور عرش

عظیم کے رب، اے ہمارے رب اور ہر چیز کے رب، دانے اور کھجور کی گٹھلی کو چیر (کر پودے اور درخت اگا) دینے والے! تورات، انجیل اور فرقان کو نازل کرنے والے! میں ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جس کی پیشانی تیرے قبضے میں ہے، اے اللہ! تو ہی اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی شے نہیں، تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کوئی شے نہیں، تو ہی ظاہر ہے، تیرے اوپر کوئی شے نہیں، تو ہی باطن ہے، تجھ سے پیچھے کوئی شے نہیں، ہماری طرف سے (ہمارا) قرض ادا کر اور ہمیں فقر سے غنا عطا فرما۔"

❖ **Tarjama** ❖ "Aye Allaah Aye Aasmanon ke Rab aur zameen ke Rab aur Arshe Azeem ke Rab Aye hamare Rab aur har cheez ke Rab daane aur khajoor ki guthli ko cheer kar paude aur darakht uga dene waale Tauraat Injeel aur Furqaan ko nazil karne waale! Mai har us cheez ke shar se Teri panah me ata hoon jis ki peshani tere qabze me hai Aye Allaah! To hi awwal hai tujh se pahle koi shae nahi to hi Aakhir hai tere baad koi shae nahi to hi zahir hai tere oopar koi shae nahi to hi batin hai tujh se piche koi shae nahi, hamari taraf se qarz ada kar aur hamein faqr se ghina ata farma".

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ، وارْحَمْنِي ، واهْدِنِي ، وعافِنِي ، وارْزُقْنِي

(حوالہ نمبر: 66)

Transliteration Allaahummaghfir li, warhamni, wahdini, wa 'aafini, warzuqni.

ترجمہ "اے اللہ! مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے، مجھ کو عافیت عطا فرما اور مجھے رزق عنایت فرما۔"

Tarjama Ye Allaah! Mujhe baqsh de, mujh par Raham farma, mujhe hidayat de, mujh ko aafiyat ata farma aur mujhe Rizq Inayat farma"

اللَّهُمَّ مَتَّعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي ، واجعلْهُمَا الْوَارِثَ مِنِّي ، وَأَنْصُرْنِي

علیٰ من ظَلَمْنِي ، وَخُذْ مِنْهُ بَثْأْرِي) . (حوالہ نمبر: 67)

Transliteration Allāhumma matti`nī bisam`ī wa baṣarī waj`alhumal-wāriṭha minnī, wanṣurnī `alā man yaẓlimunī, wa khudh minhu bitha`rī"

ترجمہ "اے اللہ! مجھے اپنے دونوں کانوں اور دونوں آنکھوں سے فائدہ پہنچا، اور ان دونوں کو میرے لیے باقی رکھ اور مجھ پر ظلم ڈھانے والوں کے خلاف میری مدد فرما، اور ظالم سے تو میرا بدلہ لے"

﴿ Tarjama ﴾ Aye Allaah. Mujhe apne dono kaanon aur dono aankhon se faida pahuncha. In dono ko mere liye baqi rakh. Aur jo log mujh par zulm karein un ke muqable mein meri madad farma. Aur zalim se tu hi mera badla le.

68

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي، وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى
عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، وَأَبُوءُ
لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ
إِلَّا أَنْتَ. (حوالہ نمبر: 68)

﴿ Transliteration ﴾ Allaahumma anta Rabbi la ilaha illa anta, Khalaqtani wa ana `Abduka, wa ana `ala `ahdika wa wa `dika mastata `tu, A`udhu bika min Sharri ma sana `tu, abu'u Laka bini `matika `alaiya, wa abu'u laka bidhanbi faghfir lee fa innahu la yaghfiru adhdhunuba illa anta."

﴿ ترجمہ ﴾ "اے اللہ! تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں۔
تو نے ہی مجھے پیدا کیا اور میں تیرا ہی بندہ ہوں میں اپنی طاقت کے مطابق تجھ
سے کئے ہوئے عہد اور وعدہ پر قائم ہوں۔ ان بری حرکتوں کے عذاب سے جو

میں نے کی ہیں تیری پناہ مانگتا ہوں مجھ پر نعمتیں تیری ہیں اس کا اقرار کرتا ہوں۔ میری مغفرت کر دے کہ تیرے سوا اور کوئی بھی گناہ نہیں معاف کرتا۔“

Tajama Aye Allaah. Tu hi mera Rabb hai. Tere siwa koi saccha mabood nahi. Tu ne hi mujhe paida kiya aur main tera banda hoon. Main apni quwwat ke mutabiq tujh se kiye hue ahd aur wada par qaim hoon. Main apne kiye hue bure aamaal ke shar se teri panah chahta hoon. Main apne upar teri nematon ka iqraar karta hoon. Main apne gunahon ka bhi iqraar karta hoon. Tu meri maghfirat farma de. Tere siwa koi bhi gunah maaf karne waala nahi.

69

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ، الْحَمْدُ لِلَّهِ مِثْلَ مَا خَلَقَ، الْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ مَا أَحْصَى كِتَابَهُ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ مَا أَحْصَى كِتَابَهُ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ،
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِثْلَ كُلِّ شَيْءٍ). (حوالہ نمبر: 69)

Transliteration Alhamdu lillahi 'adada ma khalaq. Alhamdu lillahi mil'a ma khalaq. Alhamdu lillahi 'adada ma fis samaawaati wa ma fil ard. Alhamdu

lillahi 'adada ma ahsa kitaabuh. Walhamdu lillahi 'ala ma ahsa kitaabuh. Walhamdu lillahi 'adada kulli shay'. Walhamdu lillahi mil'a kulli shay'.

تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اس کی مخلوقات کی تعداد کے برابر، تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اس کی مخلوقات کے بھرپور ہونے کے بقدر، تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں آسمان وزمین کی چیزوں کی تعداد کے برابر، تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اس کی تقدیر کے احاطے میں آنے والی چیزوں کی تعداد کے برابر، تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں احاطہ تقدیر میں آنے والی چیزوں کے بھرپور ہونے کے بقدر، تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں ہر چیز کی تعداد کے برابر، تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں ہر چیز کے بھرپور ہونے کے بقدر اور اسی طرح اللہ کی پاکیزگی ہے۔

Tarjama Tamam tareefein Allaah ke liye hain us ki makhlooq ki tedaad ke barabar. Tamam tareefein Allaah ke liye hain us ki makhlooq ke bharpoor hone ke barabar. Tamam tareefein Allaah ke liye hain aasman aur zameen ki cheezon ki tedaad ke barabar. Tamam tareefein Allaah ke liye hain un cheezon ki tedaad ke barabar jo us ki taqdeer ke ihate mein aati hain. Tamam tareefein Allaah ke liye hain taqdeer ke ihate mein aane wali cheezon ke bharpoor hone ke barabar. Tamam tareefein Allaah ke liye hain har

cheez ki tedaad ke barabar. Tamam tareefein Allaah ke liye hain har cheez ke bharpoor hone ke barabar. Aur isi tarah Allaah ki tasbeeh hai.

70

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَكِيمُ الْكَرِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ،

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (حوالہ نمبر: 70)

Transliteration Lā ilāha illallāhul-`aliyul-`azīm, lā ilāha illallāhul-ḥalīmūl-karīm, lā ilāha illallāh, subḥān Allāhi raabis samawatis sab'e wa rabbil-`arshil-`azīm, Alhamdulillahilahi rabbil aalameen”.

﴿ترجمہ﴾ "اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ بلند و برتر اور عظمت والا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ حکمت والا اور کرم کرنے والا ہے۔ اللہ عز و جل کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، پاک ہے وہ اللہ سبحانہ جو سات آسمانوں اور عرشِ عظیم کا رب ہے۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔"

Tarjama Allaah ke siwa koi mabood barhaq nahi. Wo buland aur azmat waala hai. Allaah ke siwa koi mabood haqeeqi nahi. Wo hikmat waala aur karam farmane waala hai. Allaah Azz o Jal ke siwa koi

saccha mabood nahi. Pak hai Allaah Subhanahu ta'ala jo saat aasmanon aur Arsh e Azeem ka Rabb hai. Tamam tareefein Allaah Rabb ul Izzat ke liye hain jo tamam jahanon ka Rabb hai.

71

اللَّهُمَّ أَسَلْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ
أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلَجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ
وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ
الَّذِي أُرْسَلْتَ (حوالہ نمبر: 71)

Transliteration "All-ahumma aslamtu nafsi ilaika, wa wajjahtu wajhi ilaika, wa fauwadtu `Amri ilaika, wa alja'tu zahri ilaika, raghbatan wa rahbatan ilaika. La Malja'a wa la manja minka illa ilaika. Amantu bikitabika al-ladhi anzalta wa nabiyyika al-ladhi arsalta!

﴿تہذیب﴾ "اے اللہ۔ میں نے اپنی جان تیرے سپرد کر دی۔ اور میں نے اپنا چہرہ تیری طرف کر لیا۔ اور رغبت اور خوف کے ساتھ اپنا معاملہ تیرے حوالے کر دیا۔ اور میں نے اپنی پیٹھ تیری طرف لگا دی۔ تیرے سوا نہ کوئی پناہ ہے اور نہ کوئی جائے نجات۔ میں تیری اس کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل

فرمائی۔ اور میں تیرے اس نبی پر ایمان لایا جسے تو نے بھیجا۔

❖ *Tarjama* ❖ Aye Allaah. Main ne apni jaan tere hawale kar di. Main ne apna chehra teri taraf mutawajjeh kar liya. Main ne apna maamla shauq aur khauf ke saath tere supurd kar diya. Main ne apni peeth teri taraf laga di. Tere siwa na koi panah hai aur na koi bachne ki jagah. Main teri us kitaab par eemaan laya jo tu ne nazil farmai. Aur main tere us Nabi par eemaan laya jise tu ne bheja.



وَصَلَّى اللّٰهُ وَسَلَّمًا عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ
بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. وَأَخْرَجُوا نَأْنَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ



قرآنی دعاؤں کے حوالے:

- ❖ [1] سورة الفاتحة: (1-7) ❖ [2] سورة البقرة: (127-128) ❖ [3] سورة البقرة: (137)
❖ [4] سورة البقرة: (156) ❖ [5] سورة البقرة: (201) ❖ [6] سورة البقرة: (250)
❖ [7] سورة البقرة: (286) ❖ [8] سورة آل عمران: (16) ❖ [9] سورة آل عمران: (26)
❖ [10] سورة آل عمران: (38) ❖ [11] سورة آل عمران: (53) ❖ [12] سورة آل عمران: (147)
❖ [13] سورة آل عمران: (173) ❖ [14] سورة آل عمران: (191-194) ❖ [15] سورة
النساء: (75) ❖ [16] سورة المائدة: (83) ❖ [17] سورة المائدة: (118) ❖ [18] سورة

الأنعام:79) ❖ ([19]سورة الأنعام:162) ❖ ([20]سورة الأعراف:23) ❖ ([21]سورة
 الأعراف:43) ❖ ([22]سورة الأعراف:47) ❖ ([23]سورة الأعراف:126) ❖ ([24]
 سورة الأعراف:151) ❖ ([25]سورة التوبة:129) ❖ ([26]سورة هود:47) ❖ ([27]
 سورة هود:56) ❖ ([28]سورة هود:88) ❖ ([29]سورة يوسف:64) ❖ ([30]سورة
 يوسف:86) ❖ ([31]سورة يوسف:101) ❖ ([32]سورة إبراهيم:35) ❖ ([33]سورة
 إبراهيم:38) ❖ ([34]سورة إبراهيم:40) ❖ ([35]سورة إبراهيم:41) ❖
 ([36]سورة الإسراء:24) ❖ ([37]سورة الإسراء:80) ❖ ([38]سورة الإسراء:111)
 ❖ ([39]سورة الكهف:10) ❖ ([40]سورة مريم:5) ❖ ([41]سورة طه:25-29) ❖
 ([42]سورة طه:114) ❖ ([43]سورة الأنبياء:83) ❖ ([44]سورة الأنبياء:87) ❖ ([45]
 سورة الأنبياء:89) ❖ ([46]سورة الأنبياء:112) ❖ ([47]سورة المؤمنون:94) ❖
 ([48]سورة المؤمنون:97-98) ❖ ([49]سورة المؤمنون:109) ❖ ([50]سورة
 المؤمنون:118) ❖ ([51]سورة الفرقان:65-66) ❖ ([52]سورة الفرقان:74) ❖
 ([53]سورة الشعراء:83-85) ❖ ([54]سورة النمل:15) ❖ ([55]سورة النمل:19) ❖
 ([56]سورة النمل:59) ❖ ([57]سورة القصص:16) ❖ ([58]سورة القصص:21) ❖
 ([59]سورة الروم:17-19) ❖ ([60]سورة فاطر:34) ❖ ([61]سورة الصافات:100) ❖
 ([62]سورة الصافات:180-182) ❖ ([63]سورة الزمر:46) ❖ ([64]سورة غافر:3) ❖
 ([65]سورة غافر:44) ❖ ([66]سورة الزخرف:13) ❖ ([67]سورة الزخرف:82) ❖

- ❖ (68[سورة الأحقاف:15]) ❖ (69[سورة محمد:19]) ❖ (70[سورة الحشر:10]) ❖
 ❖ (71[سورة الممتحنة:4]) ❖ (72[سورة الممتحنة:5]) ❖ (73[سورة التحريم:8]) ❖
 ❖ (74[سورة التحريم:11]) ❖ (75[سورة نوح:28]) ❖ (76[صحیح مسلم: 2705])

احادیث کی دعاؤں کے حوالے:

- ❖ (1[صحیح البخاری: 6616، صحیح مسلم: 2707]) ❖ (2[صحیح البخاری: 4114، صحیح مسلم: 2724]) ❖ (3[صحیح البخاری: 6368، صحیح مسلم: 589]) ❖ (4[صحیح البخاری: 6311]) ❖ (5[صحیح البخاری: 6312]) ❖
 ❖ (6[صحیح البخاری: 6312]) ❖ (7[صحیح البخاری: 6316]) ❖ (8[صحیح البخاری: 6317]) ❖ (9[صحیح البخاری: 844، صحیح مسلم: 593]) ❖
 ❖ (10[صحیح البخاری: 7431، صحیح مسلم: 2730]) ❖ (11[صحیح البخاری: 5671، صحیح مسلم: 2680]) ❖ (12[صحیح البخاری: 5425]) ❖ (13[صحیح البخاری: 6367]) ❖ (14[صحیح البخاری: 3293، صحیح مسلم: 2691]) ❖
 ❖ (15[صحیح البخاری: 6398، صحیح مسلم: 2719]) ❖ (16[صحیح بخاری: 6357]) ❖ (17[صحیح مسلم: 6900]) ❖ (18[صحیح مسلم: 2720] [6903]) ❖
 ❖ (19[صحیحہ الألبانی رحمہ اللہ فی صحیح الجامع: 1259، أخرجه البخاري (6316)،
 ومسلم ❖ (763) باختلاف يسير]) ❖ (20[سلسلہ احادیث صحیحہ: 1540]) ❖
 ❖ (21[سنن ابن ماجہ: 4126، سلسلہ الاحادیث الصحیحة: 308]) ❖ (22[أخرجه

الطبراني: 3710، صحيح الجامع: 1262) ❀ [23] صحيح البخاري: 6398، صحيح مسلم: 2719) ❀ [24] سنن ترمذي: 3500، قال الشيخ الألباني: ضعيف، لكن الدعاء حسن، الروض النضير ❀ (1167)، غاية اليرام (112) ❀ [25] صحيح الجامع الصغير: 1266) ❀ [26] سنن ترمذي: 3502، قال الشيخ الألباني: حسن؛ الكلم الطيب (225 / 169)، الشكاة: 2492 / التحقيق الثاني) ❀ [27] صحيح الجامع الصغير: 1269) ❀ [28] صحيح مسلم: 2712 [6888] ❀ [29] سنن ابن ماجه: 3871، قال الشيخ الألباني: صحيح) ❀ [30] صحيح مسلم: 2721 [6904] ❀ [31] سنن ابن ماجه: 3846، سلسلة الاحاديث الصحيحة: 1542) ❀ [32] صحيح الجامع: 1278) ❀ [33] صحيح مسلم: 486) ❀ [34] سنن ابي داود: 1159، 1424، قال الشيخ الألباني: صحيح) ❀ [35] سنن نسائي: 5533، سنن ابي داود: 1552، 1553، قال الشيخ الألباني: صحيح) ❀ [36] سنن ابي داود: 1547، قال الشيخ الألباني: حسن) ❀ [37] صحيح البخاري: 6367) ❀ [38] صحيح الجامع: 1285) ❀ [39] صحيح مسلم: 6906) ❀ [40] سنن ابي داود: 1544، قال الشيخ الألباني: صحيح) ❀ [41] صحيح البخاري: 6368، صحيح مسلم: 589) ❀ [42] صحيح البخاري: 5425) ❀ [43] سنن النسائي: 5502، و حسنه الألباني) ❀ [44] صحيح مسلم: 2739 [6943] ❀ [45] سنن ابي داود: 1551، قال الشيخ الألباني: صحيح) ❀ [46] صحيح مسلم: 2716 (6895) ❀ [47] سنن نسائي: 2062، قال الشيخ

(اللباني: صحيح) ❖ [48] أخرجه ابن حبان: 83، صحيح الجامع: 1295) ❖ [49]
 سنن نسائي: 5477، قال الشيخ الألباني: صحيح) ❖ [50] سنن ترمذي: 3482، قال
 الشيخ الألباني: صحيح) ❖ [51] سنن ترمذي: 3591، قال الشيخ الألباني: صحيح،
 الشكاة: 2471 / التحقيق الثاني) ❖ [52] السلسلة الصحيحة: 1443، وصحيح
 الجامع: 1299) ❖ [53] سنن نسائي: 1306، صحيح الجامع: 1301) ❖ [54] صحيح
 البخاري: (5742) ❖ [55] روى ابن السني في "عمل اليوم والليلة" (103)، شيخ الباني
 رحمه الله في كتاب "التوسل" حديث نمبر: 45 میں اس حدیث کی اسناد کو حسن لغیرہ قرار دیا) ❖
 [56] أخرجه النسائي: 5521، السلسلة الصحيحة: 1544) ❖ [57] أخرجه
 أحمد: 3823، وصححه الألباني في إرواء الغليل: 74) ❖ [58] صحيح مسلم: 2717
 [6899] ❖ [59] صحيح البخاري: 6389) ❖ [60] صحيح مسلم: 2720
 [6903] ❖ [61] صحيح مسلم: 2654 [6750] ❖ [62] سنن
 ترمذي: 3522، قال الشيخ الألباني: صحيح ظلال الجنة: 223) ❖ [63] صحيح
 البخاري: 6374) ❖ [64] صحيح مسلم: 2713 [6889] ❖ [65] صحيح مسلم:
 2697 [6849] ❖ [66] سنن ترمذي: 3604، حسنه الشيخ الالباني) ❖
 [67] صحيح البخاري: 6306) ❖ [68] أخرجه أحمد: 22198، صحيح الجامع:
 2615) ❖ [69] اس حدیث کو متعدد اہل علم نے صحیح قرار دیا ہے؛ ان میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے (التعلیقات
 الحسان میں: 6889)، اور شیخ شعیب الارناؤوط رحمہ اللہ نے بھی ایک مرتبہ صحیح ابن حبان کی تحقیق میں اسے صحیح
 کہا ہے، اور مسند امام احمد کی اپنی تحقیق کے موقع پر اس حدیث کو حسن قرار دیا۔ مسلم ویب شیخ البانی پہلے

ضعيف کہا تھا ضعیف الجامع لیکن اخیر میں تیار کی گئی کتاب (التعلیقات الحسان) میں صحیح لغيره کہا۔ (مزید اسی طرح کی ایک روایت ہے: سنن ترمذی: 3504) ❀ [70] صحیح البخاری: 6315. صحیح مسلم: 2710)



References المراجع

- 1- القرآن الکریم .
- 2- اللؤلؤ والمرجان فیما اتفق علیہ الشیخان لمحمد فؤاد عبد الباقی .
- 3- صحیح الإمام البخاری کتاب الدعوات .
- 4- صحیح مسلم ، کتاب الأدعیة .
- 5- صحیح الجامع الصغیر وزیادته ، للألبانی .
- 6- الدعاء من القرآن ، إعداد ابراهیم محمد وزنه .
- 7- الدعاء من کتاب والسنة ، سعید بن وهف القحطانی .



ya aap Duaen padhna chahte hain?, Magar dua ke alfaaz yaad nahi hain, Bilkul fikr na karein! yeh KITAB aap ki :ahnumai ke liye hai, is kitab me Quran se 75, Sahih Aha-lees se 71 Duain shamil hain. AL-HAMDULILLAAH

الدُّعَاءُ الْمَسْتَجَابُ مِنْ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَصَحِيحِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ

Arabic Matan

Urdu Tarjama

Transliteration

Roman Tarjama

مصنف: عبدالذین احمد العارف حفظہ اللہ
منتخب مستجاب دعائیں
قرآن کریم اور صحیح احادیث سے



مَحَدَّثَاتُ الْعَصْرِ وَتَأْوِيلُ السُّنَّةِ
الأمل من كتابه العزيز الألباني
رحمته الله تعالى

اعداد ترجمہ و مستدل حدیث و سریع

ڈاکٹر حفیظ الرحمن رشید شیری مدنی وفقہ
ورفقاء ادارہ اسک اسلام پیڈیا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

إِنِّي سَمِعْتُ دُعَاؤَكُمْ

"کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔"

"Ke mujh se dua karo mein tum'hari duao ko qubool karonga".

(Surah Ghaafir : 40:60) سُورَةُ الْغَافِرِ



AskIslampedia is an Islamic web portal where Islamic authentic information is available in an easy, organized and structured manner, from where the world can know the true Islam in one click In sha Allaah,

Its aim is to spread the correct information of Islam to everyone regardless of religion, creed, race and colour.



AskIslamPedia works on a simple concept that declares "we are only translators or compilers", thus ,collecting the world's scattered knowledge, or in other words it is like a supermarket where all kinds of quality items are available. In Sha Allaah ,



The aim of AskIslamPedia is to work in (50) popular languages spoken around the world (In sha Allaah), Alhamdulillah,
And work has been done on 23 languages in the first phase and in sha Allaah work is ongoing on 20 more languages in the second phase, Alhamdulillah



www.abmqurannotes.com | www.askislampedia.com | www.askmadanicom

SHAIKH Dr. ARSHAD BASHEER UMARI MADANI waffaqahullah
Hafiz and Aalim, Fazil (Madina University, K.S.A), M.B.A
Founder & Director of AskIslamPedia.com
Chairman: Ocean the ABM School, Hyderabad, TS,INDIA
+91 92906 21633 (WhatsApp only)